

بسم اللہ الرحمن الرحیم

امیرکی قیرخانہ
گوانشانا موبے کی کہانی
ملا ضعیف کی نیانی

PDFBOOKSFREE.PK


ملا عبدالسلام ضعیف
سابق افغان سفی

ترجمہ ترجمہ: ملنا رافع القدیمی (کراچی)

ناشر

کتاب دوست پبلیکیشنز

اردو بازار لاہور فون پیپی: 042-7313392



جمل حقوق بحق ناشر حقوقی ہیں!
PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY
www.pdfbooksfreepk

نام کتاب گواہنا موبے کی کہانی

ملا ضعیف کی زبانی

تصنیف مل عبد السلام ضعیف

ترجمہ تخلیص مولانا رافع القدر مدظلہ

ایڈیشنگ محمد زادہ اقبال

صفحات

112

قیمت

ناشر

کتاب دوست پبلیکیشنز لاہور

ملنے کا پتہ:

ادارۃ القائم

پہلی منزل، زبیدہ منظر

40 اردو بازار، لاہور

فون: 042-7313392

موباکل: 0300-4420434

مہر سست

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ نمبر
1	روئیداوم یاد رکی غیرت؟	5
2	ایک مرد جو کی کاسفارت سے آسارت تک کافر (پروفیسر فیاء الرحمن کشیری)	17
3	چیل لفظ	25
4	خواب اور اس کی حقیقی تعبیر	29
5	گرفتاری	30
6	اب تم محترم تھیں ہو	30
7	گھر سے بیدخلی	31
8	چوپان کی چیز دیکھا	32
9	خدا حافظ	34
10	امریکیوں کی جو اگی	35
11	تماشہ کیتھے رہے	35
12	بھری بیٹے میں	36
13	ویگر طالبان رہنماؤں کے ساتھ	37
14	ملائمر کہاں ہیں؟	37
15	فولادی پنج	38
16	باتیں مت کرو اور ہلموت	39
17	لاتیں اور گھونٹے	40
18	پل صراط اور حالت نزع	40
19	گرام ایئر پورٹ	41
20	امریکا کا عدل و انصاف کا گھر ہے	41
21	اسامہ کہاں ہے؟	42
22	ہرڑا ڈھی والا انغان طالبان	42
23	چوپیں کھنے کچھتہ کھایا	43
24	مظلوم کی دعا	43

44	گجرام میں تفتیش کا مرحلہ	25
45	چھ دن بعد کھانا کھلایا	26
45	ہاں میں ضعیف ہوں	27
47	ارضی چہاد کی مقدس مٹی	28
47	دوسرا جگہ منتقلی	29
48	قدھار منتقلی	30
48	کماں نہ رو و تم کے ہولناک مظالم	31
49	جمبوت معلوم کرنے کی شیش	32
50	عرب بھائی کو زخم کر دیا گیا	33
51	ہم سے فت بال کھیلتے تھے	34
51	برہنسہ تصویریں لی جا رہی تھیں	35
52	ایک میڑا تو پجا کرہ	36
53	اذان کی آواز بلند ہوتی	37
53	قدھار میں تحقیق کا مرحلہ	38
54	تو پین آمیز مراعات	39
54	چھ ماہ تک ہاتھ مند و حونے نہیں دیا گیا	40
55	تحقیق کا دوسرا مرحلہ	41
55	آدمی رات کو چھاپے	42
56	قدھار میں روشنی کا نظام	43
56	کھانا تقسیم کرنے کا طریقہ کار	44
56	ہر بیماری کے لیے ایک ہی گولی	45
57	دو ہوش زبانی	46
58	دوسرا اقصہ (کالا فرعون)	47
59	بے خوابی کی سزا	48
59	۱۰۵ اسالہ بوڑھا قیدی	49
60	امریکی فوجی دوران نماز سر پر بینچ گیا	50
60	ایک پاکستانی پر تشدد	51

61	قرآن مجید کی بے حرمتی پر مسلمانوں کا غمزدہ ہوتا	52
61	قرآن مجید و اپنیں لے لو!	53
62	امریکی فوجیوں کی "بہادری" کی دینے والی قلم	54
62	بشر و طرہاتی کی پیشگش اور انکار	55
63	قدھار سے گواستانا موبے منتقلی	56
64	تم ہمارے خلماں ہو	57
64	قرآن مجید کو دیکھ کر روتا تھا	58
65	متوکل صاحب سے ملاقات	59
66	رہائی کے بد لے امریکی جاسوس بننا ہو گا	60
66	برہن فوٹو گرافی	61
67	قدھار سے گواستانا موبے تک ایک گلاس پانی	62
68	گواستانا موبے منتقلی	63
68	پانچ میئنے بعد خوشکا پانی ملا	64
69	کیف حاکم	65
70	گواستانا موبے کا پہلا کمپ	66
70	رہائی کے بعد لڑائی اور شہادت	67
71	گولڈ بلاک کی کوشزی نمبر ۱۵	68
71	ایک نوالے کے برابر چاول	69
72	بدن کی گرمائش کے لیے چھلانگیں	70
73	ڈیٹا کا دوسرا اور تیسرا کمپ	71
73	چوتھا کمپ	72
74	۵۰ لاکھ ڈالر کی روشنوت	73
75	اطاعت کرو گے تو زندگی آسان ہو جائے گی	74
75	گندی رنگ والے امریکی فوجی	75
76	امریکی فوجیوں کی فسیلیں	76
76	گواستانا موبے میں امریکی فوجیوں کے عقاب گرد پ	77
78	جزل ملکا ایکو کمپ	78

79	افغانستان کا دفند	79
80	چشم دیرواقعات	80
80	رمضان پیغمبر کی وابستگی	81
81	قرآن کریم کی بے حرمتی اور بائیکاٹ	82
81	سعودی باشندے پر بھیان تشدد	83
82	چالیس دن تک سونے نہ دیا	84
83	جنیواجا کر اپنے حقوق حاصل کرو	85
83	امریکی فوجیوں کی صدر بیش کو گالیاں	86
84	بوسنیا کی قیدی	87
84	دوبے بس حکمران	88
85	پاکستانی اہلکاروں کا مک مکا	89
85	پاکستان پر تعمید کا جرم	90
86	امریکیوں کی حقیقت	91
87	محبوبستان	92
87	ہر روز نئے نئے سوال	93
88	آپ کی یہ خواہش کمی پوری نہ ہوگی	94
88	بھوک ہرتال	95
89	ذرا کرات اور ابلیس شیطان	96
90	قیدیوں کی استقامت	97
91	طالبان کے شب میں پکڑنے جانے والے انقلابی	98
91	وہ جو امریکہ کے جاسوس بن گئے اور مرتد ہوئے	99
92	گواتئاموبے میں دنیا کا کوئی قانون نہیں چلتا	100
92	گواتئاموبے کا امریکہ کو نقصان	101
93	گواتئاموبے میں پیدا ہونے والے ہیرو	102
93	افغان حکومت کا ایچی	103
93	مشروط رہائی کا حلقو نامہ	104
95	آپ رہائیں ہو سکتے	105
95	ربائی کی خوشی اور چیزیں	106

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

روئیدا عمر میادر سی عبرت؟

محدث رائد اقبال

ما عبد السلام ضعیف طالبان دور میں اسلام آباد میں امارتِ اسلامی افغانستان کے غیر تھے، وہ طالبان حکومت کے سقوط تک اس عہدے پر فائز رہے۔ ملا ضعیف نے اپنے دور سفارت خصوصاً نائن الیون کے بعد امریکی و یورپی میڈیا اور کا جرأت و بہادری کے ساتھ مقابله کر کے سفارت کا صحیح حق ادا کیا جو کہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ ایکسویں صدی کے ترتیٰ یافتہ دور میں پوری دنیا کے عوام نے ملا ضعیف کو اپنے ملک و مذہب کا بیبا کی اور عزم وہمت کے ساتھ دفاع کرنے پر خراج تحسین پیش کیا اور دنیا کے طاقتور ترین ملک امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے پر انہیں مسلمان پیش کیا۔ طالبان حکومت کے سقوط کے بعد پاکستانی حکام نے ان کو امریکا کے خونخوار بیجوں میں دیا تو یہ اقدام ان کے لیے جیران کن اور انکھا نہیں تھا۔ ملا ضعیف تین سال اور دس مہینے گوانتنا موبے اور افغانستان کے عقوبات خانوں میں اپنے سینے پر وقت کے جابریوں کے ظلم و تم سبھتے رہے۔ اس عذاب سے رہائی کے بعد ان کی دل ہلا دینے والی داستان کتابی صورت میں منظر عام پر آئی ہے۔ پشوذ بان میں تحریر کی گئی ان کی کتاب میں ایسے ایسے روح فرسا و اقتات بیان کیے گئے ہیں جنہیں پڑھ کر دل دل جاتا ہے۔

ملا ضعیف کی اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اسے بڑے معروضی اور بے لگ انداز میں تحریر کیا ہے۔ جہاں انہوں نے گوانتنا موبے میں تعینات سنگ دل امریکیوں کے مظالم کو صاف صاف بیان کر دیا ہے، وہاں اگر کسی امریکی فوجی یا افسر کا رو یہ

متاثر کن رہا تو انہوں نے اس کا اعتراف کرنے میں کسی بھل سے کام نہیں لیا۔ بد نام زمانہ امریکی عقوبات خانہ گوانٹانامو بے پچھلے کئی برسوں سے عالمی سطح پر جمہوری، قانونی، سیاسی حلقوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی شدید تقدیم کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ گوانٹانامو بے میں قیدیوں سے روا رکھے جانے والے مظالم کی کچھ جھلکیاں مختلف راویوں کی زبانی پہلے بھی سامنے آچکی ہیں، لیکن سابق اہم اور ذمہ دار طالبان رہنمائے اس خواہی سے نہایت مفصل اور جامع کتاب تحریر کر کے ان پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے اور امریکہ کے خواخوار چہرے پر پڑا نتchap اتنا نے کی کوشش کی ہے۔

ملا عبد السلام ضعیف صوبہ قدھار کے ضلع پنج وائی میں ملانور محمد کے ہاں جنوری 1967ء میں پیدا ہوئے۔ ابھی عمر عزیز کی صرف دو بھاریں دیکھی تھیں کہ ماں کی متاتے محروم ہو گئے۔ ماں کی رحلت کے بعد والد نے ان کی تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دی۔ ابتدائی مذہبی تعلیم والدہ سے حاصل کی، ابھی ان کی عمر نو سال تھی کہ 1976ء میں سایہ پدری سے بھی محروم ہو گئے۔ مزید تعلیم اپنے بڑے بھائی سے اور کچھ مقامی اسکول میں حاصل کی۔ 1978ء میں افغانستان پر افواہ آپڑی تو خاندان کے دیگر افراد اپنے ساتھ ان کو بھی پاکستان لے آئے۔ یہاں نویں جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ ملن کی محبت نے ان کو جنین سے رہنے نہ دیا لور کم سنی ہی میں ان کے اندر چہاد کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ ملا ضعیف نے اپنے والد کے ایک قریبی دوست ملا محمد صادق اخوند کے ساتھ ضلع پنج وائی میں صدقیہ تحریک کے بیزتے چہاد شروع کیا۔ چہاد کے ساتھ ساتھ علم کے مزید موتی سیٹنے کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ صدقیہ تحریک میں فعال کردار ادا کرنے پر ان کو اس تحریک میں اہم ذمہ داریاں تفویض کی گئی تھیں۔ افغانستان میں مجاہدین کی کامیابی تک وہ مذکورہ تحریک کے لیے بطور رہنماء اور مدرس خدمات انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد حصول علم کا اوہوار سلسلہ تکملہ کرنے کی غرض سے پشاور آئے۔ یہاں دورہ حدیث کے علاوہ انگریزی اور عربی زبانوں پر عبور حاصل کیا۔ طالبان تحریک کے آغاز سے لے کر اب تک اس

سے وابستہ ہیں۔ طالبان نے صوبہ ہرات پر قبضہ کیا تو ان کو بیہاں کے مرکزی بینک کا انچارج مقرر کر دیا گیا۔ پندرہ ماہ تک اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے ادا کرنے کے بعد وزیر دفاع مقرر کیے گئے۔ وزارت کا قلمدان سنjalane کے چھ ماہ بعد مستغفل ہو گئے۔ اس کے بعد وزیر ٹرانسپورٹ بھی رہے۔ 2001ء میں اسلام آباد میں افغانستان کے سفیر مقرر کیے گئے۔ کم جون 2002ء کو پاکستانی حکام نے ان کو امریکیوں کے حوالے کر دیا اور تین سال دس مہینوں تک انہوں نے افغانستان اور امریکا کی جیلوں میں سخت ترین ڈھنی و جسمانی تشدد، صعبوں تین اور تنکالیف برداشت کیں۔ 11 ستمبر 2005ء کو امریکا نے ان کو موجودہ افغان حکومت کے حوالے کر دیا۔ آج کل افغان دار الحکومت کامل میں مقیم ہیں۔

ملا ضعیف نے کتاب کیا لکھی ہے، اپنی روایت اور غم بیان کی ہے۔ اگرچہ یہ کتاب ادب کا کوئی فہرہ پارہ نہیں ہے، جیسا کہ خود ملا صاحب نے اپنے پیش لفظ میں لکھ دیا ہے، لیکن یہ واضح رہے کہ وقت کی ظالم و جابر اور انسانیت دشمن طاقتوں کی انسانیت کش تاریخ کا ایک باب تحفظ کر دیا ہے تا کہ آنے والی تسلیں اس سے درس عبرت حاصل کریں اور یہ بات ہمیشہ ان کے ذہن نہیں رہے کہ وحی الہی کے انکار پر مبنی نظام تعلیم کے پرواروں، سرمایہ دارانہ نظام کے حافظوں، صہیونیت کے سپاہیوں اور تہذیب جدید کے علمبرداروں کا حقیقی چہرہ کیسا ہے؟ ان کے انسان دوستی، جمہوریت، احترامِ مذاہب، امن و امان، انسانی حقوق اور مساوات کے نظرے محض لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھوٹکنے کے لیے ہیں۔ خصوصاً نائیں ایلوں کے بعد صدر بیش کے صیلی چنگوں کے آغاز کے اعلان و اقدامات، افغانستان پر بُنگی جاریت اور عراق کے عوام پر آتش و آہن کی پارش کر کے انہیں خاک و خون میں تڑپانے اور افغان و عراقی عوام کے ساتھ گوانہنا موبے اور ابوغریب کے جلا دخانے آباد کرنے کے بعد پوری دنیا کے باشمور عوام اس حقیقت تک بہتچنیج چکے ہیں کہ اصل انتہاء پسند، دہشت گرد اور امن کے دشمن کون ہیں؟

امریکی قوم کی تاریخ انسانیت پر ظلم و تم پر جنی تاریخ ہے۔ ہیر و شیما اور نا گا سا کی پرائیم بجم گرا کر لاکھوں انسانوں کو موت کے گھٹ اتارنے والا امریکہ جنگ عظیم دوم کے بعد سے آج تک پوری دنیا کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ اس کی جنگی پالیسیوں اور افغانستان و عراق پر جنگ مسلط کرنے کی وجہ سے آج اکیسویں صدی میں جس طرح پوری دنیا کے عوام خوفزدہ ہیں اور انہیں امن و سلامتی کے حوالے سے تحفظات و خدشات لاحق ہیں اس سے پہلے ایسا کبھی نہ تھا۔

افغانستان سے روی افواج کے اخلاء کے بعد امریکی دانشوروں نے اسلامی نظام کو سرمایہ دارانہ نظام کا حریف قرار دیا اور اس کے خلاف با قاعدہ منصوبہ بندی شروع کر دی۔ نیوولڈ آرڈر کے اعلان کے ساتھ ہی امریکی حکمرانوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر دیا، چنانچہ با قاعدہ سازش کے تحت عراق کوست تازعہ کی آڑ میں مشرق و سطحی میں فوجیں اتار کر پورے علاقے کو کنٹرول کر لیا، پھر نائن الیون کے حادثے کا بہانہ بن کر پہلے افغانستان میں طالبان حکومت کا خاتمہ کیا گیا اور بعد میں عراق پر جاریت کی گئی۔ امریکی عزم تو ایران و شام کو بھی نگل جانے کے تھے لیکن افغانستان میں طالبان اور عراق میں مجاہدین نے امریکی و اتحادی افواج کے تابوتوں کی لائی لگا کر امریکی سورماؤں کو مہیں روک لگا دی ورنہ قدم حار و بغداد کی طرح آج تہران و دمشق بھی جل رہے ہوتے۔

دین اسلام ایک کامل و مکمل نظام حیات ہے جو زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ آخری ضابطہ حیات ہے جس پر عمل درآمد کر کے ہی تاقیامت آنے والے انسان دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ نظام حیات جسے ”نظام خلافت“ سے تعبیر کیا جاتا ہے، زمانہ رسالت سے لے کر آخری اسلامی سلطنت ”خلافت عثمانیہ“ کے سقوط تک نافذ عمل رہا اور مسلمانوں سمیت پوری انسانیت اس کے مبانی و ثمرات سے مستفید ہوتی رہی۔ یورپ کے لیے اسلامی نظام خلافت کی حامل اور پوری دنیا

کے مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق اور امید کا مرکز عثمانی خلافت قابل برداشت نہ تھی۔ آٹھ صد بیوں تک یورپ پر اپنا سکھ جائے رکھنے والی خلافت عثمانیہ مسلمانوں کے ایمان و عمل میں کمزوری، اپنوں کی غداری اور اغیار کی سازشوں کی وجہ سے متواتر کارروائی تو اہل یورپ نے خصوصاً اشترائیت کے خاتمے کے بعد میڈیا کے زور پر یہ خوب پڑو پیکنڈہ کیا کہ اسلامی نظام موجودہ ترقی یافتہ دور میں ناقابل عمل ہے اور سرمایہ دارانہ نظام ہی واحد کامیاب نظام ہے۔ طالبان نے افغانستان کے بیشتر علاقوں پر کنٹرول حاصل کر کے اسلامی قوانین کے نفاذ کا اعلان کیا تو امریکہ و یورپ کو تشویش لاحق ہو گئی۔ پھر جب کامل فتح ہو گیا اور پورے ملک میں امن و امان کا قیام اور جرائم کا خاتمہ ہو گیا تو سرمایہ دارانہ نظام کے محافظوں کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اگر یہ نظام کامیاب ہو جاتا ہے اور دنیا اسے اپنی آنکھوں سے کامیاب ہوتا دیکھ کر اسے قابل تقلید تصور کرتی اور اسے اپنے ہاں درآمد کرتی ہے تو پھر انسانیت کش سرمایہ دارانہ نظام کی تو بساط ہی پیٹ دی جائے گی، لہذا انہوں نے امارت اسلامی کو ختم کرنے کا منسوبہ بنایا اور آخر کار اپنی عسکری یونیٹاں الوجی کی برتری کے مل بوتے پر اور اپنے ”اتحاد بیوں“ کے تعاون سے اسے ختم کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔

امریکہ نے اپنے ہماؤں کے تعاون سے ملا عبد السلام ضعیف کو امارت اسلامی افغانستان کے سفیر ہونے کے جرم میں پہلے افغانستان پھر گوانہ ناموبے کی جیل میں نہ صرف قید رکھا بلکہ ان پر ایسے ایسے مظالم ڈھانے کہ اکیسویں صدی کا انسان ان کو پڑھ کر جیران و ششد رہ جاتا ہے کہ کیا اس ترقی یافتہ اور تہذیب جدید کے دور میں بھی کوئی قوم اس قدر رانی اوصاف و اخلاق سے عاری ہو سکتی ہے کہ اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ ایسا سلوک روک رکھے؟ ملا ضعیف نے اپنے اور دیگر قیدیوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو بہت ہی سادہ انداز میں تحریر کیا ہے اور پوری دنیا خصوصاً عالم اسلام کے سامنے امریکہ اور اس کے ہماؤں کا خوفناک چہرہ پیش کر کے انہیں بیدار کرنے اور عالم کفر کا مقابلہ کرنے

کی تیاری کی ترغیب دی ہے۔ ہم ملا صاحب کی داستانِ غم سے کچھ اقتباسات پیش کرتے ہیں۔ بدنام زمانہ گواہتانا موبے کے مقاصد پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”گواہتانا موبے میں وقت کے فرعون کے مظالم ہیں والا ہر شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ زندان ہر اس مسلمان کے لیے بنایا گیا ہے جو امریکی پالیسیوں کا مخالف ہے۔ دہشت گردی کے نام پر گرفتار ہونے والوں کے ساتھ امریکہ ہر غیر انسانی سلوک کر سکتا ہے، کیونکہ گواہتانا موبے کے جزیرے میں دنیا کا کوئی قانون نہیں چلتا۔“

دیگر قیدیوں کی طرح ملا ضعیف پر بھی بے پناہ تشدد ہوا لیکن انہوں نے وقت کے فرعون کے جریکو ہمت و استقامت کے ساتھ برداشت کیا ہے، خود لکھتے ہیں کہ ”سلام پھیرنے کے بعد ایک فوجی نے صحت دریافت کی، کھانے کے بارے میں دریافت کیا اور پوچھا سردی تو نہیں گی؟ ہر سوال پر میرا جواب ”الحمد للہ“ ہوتا، شکایت کرتا اور نہ کچھ مانگتا تھا۔“

افغانستان و عراق پر نگلی جا ریت اور مسلمانوں کا ناقص خون بہانے کے بعد پوری دنیا کے عوام بیش اینڈ کمپنی کو ظالم و جابر قرار دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود امریکی اپنے آپ کو امن کا ٹھیکیندار سمجھتے ہیں، پوری دنیا کو ”انصاف“ فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ ملا ضعیف بیان کرتے ہیں:

”بگرام میں اس دن تازہ برفباری ہوئی تھی، مجھ پر تشدد کے دوران وہاں موجود امریکی عورتوں اور مردوں جیوں نے گانا شروع کر دیا۔ ان کے جوشمر جسے سمجھ آرہے تھے وہ یہ تھے:

امریکہ عدل و انصاف کا گھر ہے،

عدل و انصاف کا طرفدار ہے،

اور ہر کسی کے لیے انصاف چاہتا ہے،

امریکی انتظامیہ اپنے عوام کو تو انصاف فراہم کرتی ہو گی، لیکن دیگر اقوام کے افراد خصوصاً مسلمان تو ان کے نزدیک انسان بھی نہیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ ان سے انسانی

سلوک روار کھنے کو تاروا بخستہ ہوئے بقول ملا ضعیف اس طرح کا سلوک کرتے ہیں:
 ”اکثر اوقات خوراک سے بدبو آتی مگر یہ جانے کے باوجود کہ یہ خوراک صحت کے لیے نقصان دہ ہے، ہم مجبوری کے تحت کھا لیتے تھے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔“

مہذب امریکہ کی طرف سے قید یوں کو ملنے والے کھانے کی ایک جھلک ملاحظہ ہو:
 ”روٹی چار قسم کی ہوتی، کھانا باری باری پکا تھا، بسیری الٹی ہوئی ملتی اور سالن اکٹھندا ہوتا، جس کی وجہ سے قید یوں کو قبض کی شکایت رہتی تھی۔ مچھلی بدبو دار ہوتی اور مرغی کے گوشت میں خون صاف نظر آتا۔ چاول اتنے کم ہوتے کہ نصیب اللہ نامی ہمارے ایک ساتھی ایک نوالہ بھر کر کھا لیتے تھے، روٹی اتنی کم مقدار میں ملتی کہ سچے کا پیٹ بھی اس سے نہ سکتا۔“

ظاہر ہے کہ اس طرح کی خوراک سے امراض پیدا ہوں گے تو اور کیا ہو گا؟ لیکن اس

کے نتیجے میں علاج معاملہ کا انتظام اس طرح تھا:
 ”ہمارے پڑوس کے خیسے میں پاستانی بھائی کو دانتوں کا شدید درد تھا، نر سیس ہر مرض کے لیے ”Talinol“ نامی گولیاں دیتی تھیں، اس کو بھی یہی گولیاں دی گئیں مگر اس کا درد بڑھتا گیا، وہ اس درد کی وجہ سے کھانا نہیں کھا سکتا تھا۔“

امریکی نہ صرف یہ کہ کوئی موثر علاج نہ کرتے تھے بلکہ تشدید کا نشانہ بھی بنا تے تھے، ملا

ضعیف اسی طرح کا واقعہ بیان کرتے ہیں:

”میری باری آئی اور مجھے (ڈاکٹری منڈوانے کے لیے) نائلی کے سامنے بخادیا گیا۔ میں نے بہت فتیں کیں اور کئی بار مراحت کے لیے سر کو ہلایا مگر چہرے پر اتنا خفت تھپڑ پڑا کہ پانچ منٹ تک آنکھوں کے آگے اندر ہمراچھایا رہا۔ اس واقعے سے مجھے ایک دوسرا تھپڑ بھی یاد آیا جو ایک ڈاکٹر نے مجھے مارا تھا۔ ایک بار معاشرہ کرتے وقت آنکھوں کے ڈاکٹر کو استفسار

گوانتانامو بے کی کہانی ملا ضعف کی زبانی

پر وجہ تائی تو اس نے تھہر سید کر دیا اور کہا کہ شکایت کیوں کرتے ہو۔ ہم اس وجہ سے شکایت بھی نہیں کر سکتے تھے۔“

امریکہ و مغرب احترامِ مذاہب اور مکالمہ میں المذاہب کا بہت شور چاہتے ہیں اور اس طرح دیگر اقوام خصوصاً مسلمانوں کے ”روشن خیال“ طبقے کو اپنے جاں میں پھانسے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ ان کا اپنا حال یہ ہے:

”ہم بجدے میں تھے کہ دوفوجی میرے سر اور کمر پر بیٹھ گئے، میں بجدے سے ناٹھ کا، چنانچہ نمازِ خراب ہو گئی، پھر عادل یونی کو نماز کے دوران ہی زبردستی لے جایا گیا۔“

مہذبِ دنیا کے مہذبِ فوجی نہ صرف یہ کہ نمازیں خراب کرتے بلکہ قرآن پاک کی بے حرمتی تو ان کا معمول تھا، جس کے کئی واقعات آپ کتاب میں ملاحظہ کریں گے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ ان کے عزائم کیا ہیں؟ اس کا اندازہ درج ذیل واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے:

”ایک دن ایک چھوٹے قد کے موٹے شخص نے آ کر انتہائی بد تیزی سے بات شروع کی اور پوچھایا مسلمان آخر کب ہمارے سامنے مستلزم ختم کریں گے؟ اس سے میرا خون کھولوں اٹھا گر میں نے حوصلہ کر کے جواب دیا کہ آپ کی یہ خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہو گی۔ مسلمانوں کا ایک گروہ آپ کے خلاف امام مہدی کے ظہور تک جہاد کرے گا اور آخر میں غلبہ مسلمانوں کا ہی ہو گا۔ اس نے پوچھایا گروہ کس کا ہو گا؟ طالبان یا القاعدہ کیا کسی اور کا؟ میں نے کہا کہ یہ مجھے معلوم نہیں مگر یاد رکھیں کہ آپ اپنے اہداف تک اس قدر آرام سے پہنچیں گے۔ اس نے لمبی سانس لی اور کہا کہ کاش! یہ امام مہدی جلد سامنے آجائیں اور ہم ان سے نہیں تاکہ مسلمانوں کی یہ آخری امید بھی ختم ہو۔“

ایسے ہی بد تیز اور انسانی اوصاف سے عاری فوجی ایک دونہ تھے بلکہ پیشتر اس سے بھی دو قدم آگے تھے، ملا ضعیف نے ان کا نہ کہہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

”ان کا اخلاقی درجہ صفر تھا قaidیوں کو ہمیشہ بھوکار کھتے تھے، ان کو گندے کپڑے دیتے

تھے، نیند کے وقت بلیوں اور کتوں کی طرح آوازیں نکال کر پریشان کرتے اور قیدیوں کے ساتھ تو ہیں آمیز سلوک کر کے ان کو غصہ دلاتے تھے..... چابی والے گروپ کے فوجیوں کو انسانیت چھو کر بھی نہ گزری تھی، تعصّب ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ہر وقت بد اخلاقی کے مظاہرے کرتے رہتے اور ہمارے مذہبی شعائر کا احترام نہ کرتے تھے۔ اپنے اعلیٰ حکام کو جھوٹی روپوں میں ارسال کرتے اور قیدیوں کو سخت سزا میں دلواتے تھے۔ قرآن مجید کی بار بار بے حرمتی کرتے، قیدیوں کو مشتعل کرتے، ان کو تشدید کا نشانہ بناتے اور رات کے وقت بے جا ٹالشی لیتے اور جب قیدی محو خواب ہو جاتے تو فرش کے ساتھ اپنے بھاری بوٹ مار کر شور چاتے..... 94 گروپ کے فوجیوں میں شیطانی خصلتیں تھیں، وہ تمام کے تمام وحشی اور مغروف تھے۔ قیدیوں کی تکلیف میں خوشی محسوس کرتے

یہ وحشی اور شیطانی خصلتوں کے حامل فوجی قیدیوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھتے اور بے پناہ تشدید کرتے تھے، اسے سن اور پڑھ کر ورنگئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ملاحظہ ہو:

”یہاں رہ کر بہت سے قیدی نفسیاتی مریض بن گئے تھے۔ قیدی یہاں چیختنے مگر ان کی چیزوں کی آوزیں کسی کو سنائی نہ دیتی تھیں..... برطانوی شہریت رکھنے والا ہمارا ایک بھائی احمد اس کیپ میں تین سال گزارنے کی وجہ سے شدید پریشان کام مریض بن گیا تھا..... احمد کو بعد میں اتنے امراض لاحق ہو گئے تھے کہ وہ بالکل بے حس ہو کر رہ گیا تھا، کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ہر وقت اپنے آپ سے با تسلی کرتا رہتا۔ گواننا موبے میں کبھی بھار رات کو اٹھ کر نعمیں پڑھتا اور حلاوت کرتا، اکثر قرآنی آیات غلط پڑھتا تھا..... طب کے شیبے سے نسلک افراد کو قید نہیں رکھا جاسکتا، مگر ڈاکٹر ایمن سعید (یمنی) کو گرفتار کر کے گواننا موبے پہنچا دیا گیا۔ ان کو اتنا ڈھنی اور جسمانی تشدید کا نشانہ بنایا گیا کہ آخر میں پاگل ہو گئے۔ ان کی طرح اور بھی بہت سے قیدی پاگل ہو گئے تھے مگر ان کو سزا بابا قاعدگی کے ساتھ دی جاتی تھی۔“

اس اذیت ناک اور انتہائی تکلیف دہ ماحول میں رہنے کے باوجود ان کی ایمانی کیفیت کیا تھی؟ ملا ضعیف افغانستان میں قید کے دوران کا واقعہ لکھتے ہیں:

”کچھ دیر بعد ہر خیے سے اذان کی آوازیں آنے لگیں، جیسے ہم کسی شہر میں ہوں، ملا اخوند نے الحمد للہ کہا، بعد میں گر گئے اور کہا ضعیف بھائی مجھے تو لگتا ہے کہ ہم اسلام کے قلعے میں آگئے ہیں۔“

امریکہ نے طالبان اور القاعدہ ارکان کے شہبے میں کیسے کیے بے گناہ لوگوں کو گرفتار کر کے گوانہ نامو بے کے زندان خانے میں تشدد کا نشانہ بنایا۔ ملا ضعیف کی زبانی صرف افغان قیدیوں کا حال سننے:

”ان سب افغانوں کو پکڑا گیا جنہوں نے کسی طالب یا مجاہد کو پناہ دی، ان کو کھانا کھلایا کسی مشہور طالب یا مجاہد کا نام کسی نے لیا یا کسی نے اسے دیکھا۔ ایک افغان کو اس لیے پکڑا گیا کہ اس نے مجاہدین جیسا کوٹ پہنچا، ایک کو جیب میں ٹیلی فون سیٹ رکھنے پر جبکہ ایک چڑواہے کو دور بیٹن رکھنے پر پکڑا گیا اور ان سب کو بعد میں جنگی مجرم ثابت کیا گیا۔ اکثر بھائی مجھے تفصیلی روئیداد بیان کرتے جس پر مجھے بہت افسوس ہوتا۔ افغان قیدیوں میں طالبان، مجاہدین، موجودہ افغان حکومت کے اہلکار، موچی، لوہار، چڑواہے، صحافی، صراف، دکاندار، آئندہ مساجد تھیں کہ امریکا کے اپنے ترجمان بھی شامل تھے۔“

جب طویل عرصے تک تقیش کرنے کے بعد کوئی قیدی ”بے گناہ“ ثابت ہو جاتا اور اس سے مطلب کی کوئی بات حاصل نہ کرتے اور رہا کرنے کا ارادہ کیا جاتا تو اسے مشروط رہائی پیش کی جاتی، جس کی تفصیل آپ اس کتاب کے آخر میں ملاحظہ کریں گے۔ اگر کوئی قیدی ان کے مشروط رہائی ناے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیتا تو اسے رہانہ کیا جاتا تھا۔ امریکیوں کی پہلی کوشش یہ ہوتی تھی کہ بے گناہ قیدی کو اپنا جاسوس بنالیا جائے، چنانچہ اس کی پیش کش بھی کی جاتی، ملا ضعیف کی زبانی ملاحظہ ہو:

گوانہتا ناموبے کی کہانی ملا ضعیف کی زبانی

”یہ قندھار میں میری تفتیش کا آخری مرحلہ تھا۔ تفتیش کرنے مجھے بتایا کہ یکم جولائی کو گوانہتا ناموبے کے لیے آپ کی پرواز ہو گی۔ ہم ان قیدیوں کو گوانہتا ناموبے سمجھتے ہیں جو مرتبے دم تک وہاں رہیں گے اور موت کے بعد بھی یہ گارنٹی نہیں کہ ان کی میت وطن واپس لائی جائے گی یا نہیں؟ اب یہ آپ کے پاس آخری موقع ہے تاکہ مکر جانا چاہتے ہیں یا گوانہتا ناموبے؟ مکر واپسی کے لیے اس تفتیش کرنے اپنی پرانی شرائط (پیسے کے لائق اور ملا عمر اور اسامہ بن لادون کی گرفتاری میں تعاون) دہرائیں۔ بالفاظ دیگر مجھے کہا کہ آپ کو رہائی کے بدلتے امر کی جاسوس بنتا ہو گا۔“

ملا ضعیف کو گوانہتا ناموبے سے مشروط رہائی دیتے ہوئے انہیں حلف نامے پر دستخط کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کاغذ انتہائی غصے سے دور پھینکا اور کہا:

”میں مظلوم ہوں، مجرم نہیں ہوں، کبھی بھی اپنا ناکردار جرم تسلیم نہیں کروں گا، کبھی معاف نہیں مانگوں گا، کبھی بھی اپنی رہائی پر امریکا کا شکریہ ادا نہیں کروں گا، میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ مجھے کس قانون کے تحت مجرم ثابت کیا گیا ہے؟ میں طالب تھا، ہوں اور طالب رہوں گا، البتہ القاعدہ کا کبھی ساتھی نہیں رہا۔ کس دہشت گردی کے واقعے میں میرا ہاتھ تھا؟ مجھے بتائیے، اگر آپ سچے ہیں۔“

حقیقت یہ ہے کہ ملا ضعیف نے یہ کتاب تحریر کر کے اور امریکہ کے حقیقی چہرے کو بے نقاب کر کے امریکہ دیور پر کو آئینہ دکھایا ہے اور پوری دنیا کے عوام کو اس مکروہ چہرے کے نظارے کی دعوت دی ہے کہ امریکی دیور پر میڈیا کے پروپیگنڈوں اور خوش کن نعروں پر نہ جائے بلکہ آئیے اور اس درندے کی درندگی کے واقعات کو پڑھیے اور فصلہ کیجئے کہ انسانیت کا قاتل، اسن کا دشمن اور دہشت گرد کون ہے اور انسان دوست، اسن کا داعی اور انسانیت کا خیر خواہ کون ہے؟ قارئین کرام! یہ کتاب محض واقعات کا مجموعہ اور داستانِ الْمُنْهَى بلکہ یہ امت مسلمہ کی موجودہ حالتِ زار کا نقشہ اور اس کی گہری ہوئی تصویر یہی ایک جھلک ہے۔

گواتنامہ بکی کپتانی ملا ضعیف کی زبانی

۱۷
آج گواتنامہ کے جلاوطنی کیوں آباد ہے؟ ابوغریب جیل سے مسلمان بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں کی چیخیں کیوں آرہی ہیں؟ غزہ کے باسیوں پر صہیونی نینک گولے کیوں بر سار ہے ہیں؟ بیروت کی اینٹ سے اینٹ کیوں بجادی گئی ہے؟ بخداد کا مقتل کیوں جا ہے؟ طالبان کے نام پر نہتے اور بے گناہ افغان شہریوں پر بمباری کیوں کی جاتی ہے؟ تو یہیں آمیز خاک کے شائع کرنے کی جرأت کیوں کھڑکی ہے؟ پوپ بینی ذکر کو اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہرزہ سرائی پر کون سی چیز ابھارتی ہے؟ اور اپیں کا وزیر اعظم اس کی تائید کیوں کرتا ہے؟ یہ اور ان جیسے دیگر بے شمار سوالات قبل غور ہیں۔

ہمیں چاہیے کہ ہم ان سوالات کے جوابات میں امستر مسلمہ کے زوال کے بنیادی مرض کو ڈھونڈیں اور مرض کی تشخیص کے بعد اس کا علاج تجویز کر کے مرض کے ازالے کے لیے ہمہ تن مصروف عمل ہو جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ رونے دھونے، آنسو بھانے، مذاکرے، مباحثے، سینما راز، کافنرنسیں، جلسے، جلوس، ہرستا لیں اور ”زنده باد، مردہ باد“ کے اندرے لگانے کا نہیں بلکہ عمل کا وقت ہے۔ جب تک ہم القدام کے لیے تیار نہیں ہوتے تب تک اس طرح کی روایہ داعم سامنے آتی رہیں گی اور ”امعتصما“ کی صدارپر ”لبیک“ کہنے والا کوئی نہ ہو گا۔

امریکہ و مغرب کی ترقی و عروج اور غلبے کا سبب ان کا مضبوط سیاسی، عسکری اور اقتصادی نظام ہے جس کا واحد توازن اور مسلمانوں کے عروج و غلبے کا راز اسلامی نظام کے نفاذ میں مضر ہے۔ مسلمان جتنا جلد اس حقیقت کو پالیں گے اتنا جلد اس کے مسائل حل ہوں گے اور مصائب و آلام میں کمی آئے گی۔

ربوکریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں احیاء اسلام کے لیے ہمہ تن جدوجہد کرنے اور ہر قسم کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ (۲۴)

ایک مرد جری کا سفارت سے آسارت تک کاسفر

پروفیسر ضیاء الرحمن کشیری

میرے نزدیک ہروہ انسان عقیدت و احترام کے لائق ہے جو مساعد و ناصاعد، ہر طرح کے حالات میں سود و زیاد کا حساب رکھے بغیر باطل کے سامنے سینہ پر ہو جائے۔ قحط الرجال کے اس دور میں ایک ایسے ہی جری افغان نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس کی عزیمت اور چند مسلسل کو عقیدت بھرا سلام پیش کروں۔ وہ جری افغان جو دنیا کے ایک کمزور ترین ملک افغانستان کا سفیر ہوتے ہوئے، دنیا کے طاقت و رتین ملک امریکا کے طاقت و رتین افراد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک مسلسل سے کلمہ حق بلند کرتا چلا گیا۔ میری مراد افغانستان میں قائم طالبان کی امارتِ اسلامیہ کی طرف سے اسلام آباد میں معین سفیر ملا عبد السلام ضعیف ہے۔ میں اس مرد مجاہد کو خراجِ تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس نے بادخالف کی ذرہ بھر پرواہن کی اور جرأت و استقامت سے اپنے سفارتی فرائض بہترین انداز میں ادا کرتا رہا۔

ملا عبد السلام ضعیف سے میرا پہلا تعارف اسلام آباد کی ایک دینی درس گاہ میں ہوا۔ مگر 2000ء کا یہ ایک گرم ترین دن تھا۔ مری کے کوہسار بھی اسلام آباد پر برستی آگ کی شدت کو کم کرنے میں ناکام دکھائی دے رہے تھے، ایسے میں جس ہال نما کمرے کی فرشی نشست پر ہماری طلاقات کا اہتمام تھا، اس میں کم و بیش 45 سے 150 افراد ٹھنٹھنے ہوئے تھے۔ ہم سب کی نگاہوں کا مرکز ملا عبد السلام ضعیف کی ہمہ جہت شخصیت ہی تھی۔ 2 گھنٹے پر محیط یہ ایک یادگار

ملاقات تھی۔ ہر کوئی ملا ضعیف سے مستقبل کی منصوبہ بندی کے بارے میں دریافت کر رہا تھا۔ سوالات کی بوچھاڑتھی لیکن وہ تلخ سے تلخ سوال کو بھی انتہائی خندہ پیشانی سے سن کر اس کا مختصر مگر جامع جواب دے رہے تھے۔ سب ہی حاضرین ان کی حاضر جوابی کے معرف ہو چکے تھے۔ اس پہلی ملاقات میں میں نے انہیں ایک انتہائی سمجھدہ، متین، دور اندریش، صاحبِ علم، صاحبِ فکر اور متواضع انسان پایا۔

اس کے بعد ان سے میسیوں مرتبہ ملاقات رہی۔ کبھی کسی پر لیں کافرنز میں تو کبھی کسی جلسہ گاہ میں، کبھی کسی بریلنگ میں تو کبھی کھانے کی کسی دعوت میں۔ الغرض جتنی مرتبہ بھی میری ان سے ملاقات ہوئی، ہر مرتبہ ان کی شخصیت کی کئی اور خوبیاں مجھ پر مکشف ہوتی چلی گئیں۔ میں سمجھتا ہوں اس دور میں کہ جب حالات کی نامساعدت کا رونا عام ہے اور مسلمانوں میں نا امیدی، مایوسی، بے زاری اور پست ہمتی کے رجحانات سراٹھار ہے ہیں، ملا ضعیف کا عزم و حوصلہ نسل کے لیے ایک بیش بہا اور مغافن ہے۔ ملا ضعیف ایک ہمہ گیر شخصیت کے مالک ہیں۔ ان کی زندگی کے تمام پہلو اور خوبیاں الگ سے ایک منفصل کتاب کی مقاصضی ہیں۔ اپنی تمام تر انسانی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ وہ ایک ایسی شخصیت ہیں، جس سے عقیدت بھی ہو سکتی ہے اور محبت بھی۔

جن دنوں ورلڈ تریڈ سینٹر (Twin Towers) سلامت تھے، اس وقت بھی امریکا اور مغربی طاقتیں افغانستان کی اسلامی امارت کے وجود اور سلامتی پر میڈیا اور رجھوٹے پروپیگنڈوں کے ذریعے مسلسل جملے جاری رکھے ہوئے تھیں۔ یہ ریکیک جملے کسی حکومت یا ملک کے خلاف نہیں تھے بلکہ در حقیقت ان کا نشان اللہ کا پسندیدہ دین (اسلام) اور اس کا کامل و مکمل اور آخری آفاقی نظام تھا جسے امریکا و مغرب، روس کے اشتراکی نظام کی ناکامی کے بعد اپنے سرمایہ دار ائمہ نظام کا حریف قرار دے کر اس کے خلاف سازشوں کا با قادہ آغاز کر چکا تھا۔ جب طالبان نے افغانستان کا اقتدار سنبھالنے کے ساتھ ہی اسلامی نظام

گوانڈ ہاموبے کی کہانی ملٹا ضعیف کی زبانی

کے نفاذ کا اعلان کیا تو اہل مغرب کے پیٹ میں یہ مروڑا ٹھنے لگے کہ طالبان نے تباہ حال افغانستان کے اندر اسلامی قوانین کے ذریعے ایک مثالی امن کا قیام عملہ کیوں کر کر دکھایا ہے۔ وہ افغانستان جو طالبان سے قبل کوئین، پوسٹ اور ہیر و میں جیسی خطرناک نشہ آور اشیاء کی پیداوار میں عالمی رینکنگ میں اول نمبر پر ”فائز“ تھا، طالبان کی آمد اور اسلامی نظام کے نفاذ کے بعد اس لعنت کا افغانستان سے یکسر خاتمه ہو گیا۔ روں کے انخلاء کے بعد وار لارڈ زجن کے جبر و تشدد سے افغان عوام عاجز آچکے تھے، طالبان نے اس ظلم پر مبنی نظام کو تخت و بن سے اکھاڑ کر پھیک دیا۔ جہاں طالبان سے پہلے بھرے قلعوں کے اندر سے جوان لڑکیاں اخواء کری جاتی تھیں اور مال و دولت لوٹ لیا جاتا تھا، اب اسی معاشرے میں طالبان کے پریم لیڈر طالمح عمر مجاهد یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ”اگر کوئی سونے کے زیورات سے لدی ہوئی جوان عورت تن تھا اقدحار سے کامل کا سفر کرنا چاہے تو وہ بے غم ہو کر چل پڑے، اس کی عزت اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری مجھ عمر پر ہے۔“ یہ محض دعویٰ نہ تھا بلکہ طالبان کے زیر کنٹرول علاقوں کا امن و امان، ان کے اس دعوے کی تصدیق کر رہا تھا۔

اہل مغرب کو یہ فکر بھی کسی کروٹ چینی نہ لینے دیتی تھی کہ دنیا کے تقریباً تمام ہی ممالک ان کے پھیلائے ہوئے شیطانی جالوں ”آئی ایم الیف“ اور ”ولٹہ بیک“ کے چنگل میں پھنس کر ان کے اشاروں پر ناق رہے ہیں لیکن طالبان انتہائی نامساعد مالی حالات کے باوجود ان شیطانی جالوں کے دام میں چنسنے پر آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ امریکا کے تحفند نینکس کا پنچتھا ہاتھوں سے بھرت مکہ، غزوہ بدر، غزوہ احد، فتح مد اور فارس و روم کی شاندار فتوحات سے متعلق اسلامی تاریخ کے اوراق الٹ پلٹ رہے تھے اور ان پر یہ خوفناک اکشاف بیبٹ طاری کر رہا تھا کہ ابتدائے اسلام میں ہونے والی ان فتوحات کے اسباب میں جو خوبیاں اور اوصاف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور جان شماران پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے، آج تقریباً 14 سو برس گزرنے کے بعد طالبان کے اندر بھی ویسی ہی خوبیوں اور

اوصاف کی بھلک دکھائی دے رہی ہے۔ جمہوریت کے فریب کن نظرے کی آڑ میں پوری دنیا پر قبضہ کرنے کے منصوبے پر عمل پیراں تھنک ٹینکس کو یہ فکر لاحق ہو چکی تھی کہ اگر دنیا نے طالبان کے نافذ کردہ اسلامی نظام کی برکات و شرات کو محسوں کر کے اسے مثالی اور قابل تقلید قرار دیا اور امریکا و مغرب کی امداد و تعاون کے بغیر اس نظام کو کامیاب ہوتا دیکھ لیا تو ان کے ”نسور اللہ آرڈر“ کی منزل سراب میں بدلت جائے گی اور نہ صرف عالم اسلام بلکہ عالم کفر کے اکثر ممالک بھی باطل جمہوریت اور غیر فطری و یوسیدہ سرمایہ دار اسلامی نظام کو خیر باد کہہ کر اسلام کے ”حقیقی نظام“ کی طرف مراجعت اختیار کر لیں گے۔ انہی اندیشوں کے پیش نظر امریکا اور مغرب شدید بے چینی کا شکار تھا۔ وہ ہر قیمت پر ”اسلامی نظام“ کی بساط پیش دینا چاہئے تھے۔ اسی ایجنسٹے پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے شدود میڈیا کو بطور تھیار استعمال کرنا شروع کیا۔ 2000ء میں امریکا نے اپنے سالانہ بجٹ میں 5 ارب ڈالر کی خلیر قم فقط طالبان کے خلاف لڑی جانے والی میڈیا وار کے لیے مختص کی۔ CIA کے سینکڑوں ایجنسٹ ایکٹر انک اور پرنٹ میڈیا کے نمائندوں کے روپ میں پاک افغان بارڈر پر جا بجا کھیل گئے۔ جگہ جگہ پروپیگنڈہ ساز فیکٹریاں کھل گئیں۔ اسلام اور طالبان کو پدنام کرنے کے لیے بڑے بڑے سفید جھوٹ گھڑے جانے لگے۔ اسی ایسی روپوں میں، خبریں اور پیغامز انٹر نیشنل میڈیا کی ”زمینت“ بننے لگے جن کی سچائی پر کھنک کوئی مستند ذریعہ نہ تھا۔ شرعی پر دے کو عورت کا استعمال کہا جانے لگا، شرعی سزاوں کو وحیانہ سزا میں کہا گیا اور اسلامی نظام کو انسانیت سوز نظام پاور کرا یا جانے لگا۔ ایسے دگر گوں حالات میں دنیا کو اس مکروہ پروپیگنڈے کی حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے طالبان قیادت نے طا عبد السلام ضعیف کا پاکستان میں بطور سفیر انتخاب کیا تو ان پر کیا جانے والا یہی اعتماد ہی درحقیقت ان کی شخصیت کا اصل آئینہ ہے۔ اسلام آباد کے ”مور پچ“ میں پیٹھ کر انہوں نے جو کام کیا بلاشبہ وہ اسلامی تاریخ کے اور اراق میں سہری حروف سے لکھے جانے کے لائق اور تاریخ کا ایک

درخشنده باب ہے۔ بالخصوص 9 ستمبر 2001ء کے بعد انہوں نے اپنا آرام تجویز کرایک ایک لمحہ اسلام اور اپنی قوم و ملک کی وکالت کے لیے وقف کر دیا۔

11 ستمبر 2001ء کو جب امریکا کے مختلف حساس مقامات سے مسافر طیارے گئے اور اس کے نتیجے میں پینٹا گون کی جزوی تباہی اور ولڈ ٹریڈ میشنر کی جڑوں عمارت کے زمین بوس ہونے کا واقعہ پیش آیا تو امریکا کے ٹھنک ٹینکس جن میں اکثریت صہیونیوں کی ہے، نے پہلے سے منصوبہ بند سازش کے ذریعے القاعدہ کو موردا الزام پھر اکر افغانستان میں نافذ اسلامی نظام پر شب خون مارنے کا شیطانی فحولہ کر لیا۔ پھر وہ وقت بھی آگیا کہ جب بغیر کسی جرم اور شہوت کے امریکا کے لیے 52 طیاروں نے کارپٹ بمباری سے افغان سر زمین کو اوپر زیرنا شروع کر دیا۔ 17 اکتوبر 2001ء کی وہ سیاہ رات تاریخ عالم کے اوراق میں امریکا کے ”انسان دوستی“ اور ”تہذیب و تمدن“ کے علمبردار ہونے کے دعووں پر سوالیہ نشان کے طور پر ہمیشہ تحریر کی جاتی رہے گی۔ کروز میز انتلوں اور بی۔ 52 طیاروں کی کارپٹ بمباری کر کے افغان عوام کو جس وحشیانہ طریقے سے نشانہ بنا گیا وہ امریکا کے ماتحت پر ٹکنک کے لیے کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ جدید عسکری تینکنالوجی کے گھوڑے پر سوار اس ترقی یافتہ وحشی قوم کی دست بر دے شہری آبادی پر کسکی اور نہ دیہات، مساجد محفوظ رہیں اور نہ ہی ہپتال۔

ایک طرف افغانستان کے درود یا رجل رہے تھے تو دوسری طرف پاکستان میں ملا عبد السلام ضعیف چوکھی صحافتی جنگ لڑنے میں مصروف تھے۔ ہرگز تے دن کے ساتھ ان پر امریکا اور اس کے ایجنسیوں کا دباؤ بڑھتا چلا جا رہا تھا لیکن انہوں نے کسی لمحہ بھی کمزوری کا مظاہرہ کیا اور نہ خوف زدہ اور مرعوب ہوئے۔ اللہ پر توکل کے بعد انہیں پاکستانی قوم پر پورا اعتقاد تھا لیکن یہاں کی غیر آئینی اور غیر مفتخر حکومت سے وہ ابتداء ہی سے شاکی تھے۔ انہیں یہ اندازہ ہو چلا تھا کہ پاکستانی حکومت امریکا سے ان کی قیمت وصولے سے بھی دریغ نہیں کرے گی۔ اسی اندیشے کے پیش نظر انہوں نے اپنی سرگرمیاں محدود کر لیں اور مختاط رویہ

اختیار کر لیا۔ جنگ کے دھانے پر کھڑی اپنی قوم اور ملک کے سورال کو بلند رکھنے کے لیے ایک سفیر جو پچھے کر سکتا تھا، انہوں نے یقیناً اس کا حق ادا کر دیا۔ حالات اس قدر تجھیں ہو چکے تھے کہ ملا ضعیف کے فون شیپ ہونے لگے، ان کے ملاقاتیوں کی مگر انی کی جانے لگی اور پاکستان میں طالبان کے تمام اٹاٹھ جات کو ضبط کر لیا گیا۔ امریکا کا خوف، ایمان کی پتھری سے عاری پاکستانی قیادت کو وائٹ ہاؤس سے جاری ہونے والا ہر حکم بجالانے پر مجبور کرتا چلا گیا۔ آخر وہ نامبارک گھڑی بھی آہی گئی کہ اپنوں کی کھلی غداریوں کی وجہ سے ”ستوط کامل“ کا الناک سانحہ امت کا در در رکھنے والوں کو مرغی بیتل کی طرح تڑپا گیا۔


میر جعفر اور میر صادق کے بد باطن گروہ میں اپنا نام رقم کروانے والوں نے یہ تک نہ سوچا کہ جز لخیاء الحق بھی کبھی امریکا کی آنکھ کا تارا تھے۔ وہ یہ بھی بھول گئے کہ میاں نواز شریف اور محترمہ بن نظیر بھٹو بھی امریکا کی گذبک میں شامل رہی تھیں۔ وہ اس حقیقت کو بھی فراموش کر گئے کہ امریکا کے مستقل دوست صرف اس کے مفادات ہیں اور کوئی نہیں۔ جب اس کے مفادات پورے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ تعاون کرنے والے افراد کو بھی ٹھکانے لگانے سے باز نہیں آتا اور ”کام“ نکلانے کے بعد چچے مذکور بھی نہیں دیکھتا۔ افغانستان سے روں کے انخلاء کے بعد کا طرزِ عمل اس کا واضح ثبوت ہے۔

اکثریتی دنیا کی طرف سے متفقہ طور پر جنیو اکیشن میں منظور شدہ سفارتی آداب اور حقوق کی دھمیاں اڑا کر ملا عبد السلام ضعیف کو جس غیر انسانی طریقے سے امریکا کے حوالے کیا گیا، یہ باب بھی ”مہذب“ دنیا کے یادگار ”کارنائے“ کے طور پر تاریخ عالم میں رقم رہے گا۔ ملا عبد السلام ضعیف نے گوانتنا موبے میں 3 سال 10 ماہ کی اذیت تاک اسارت سے رہائی پانے کے بعد اپنے ساتھ پیش آنے والے تمام اہم واقعات کو بہترین اسلوب کے ساتھ من و عن کتابی صورت میں تحریر کیا ہے۔ اس کتاب میں موجود ہر ہر ورق ”مہذب دنیا“ کے چہرے پر پڑے سبھری نقاب کو نوچتا دکھائی دیتا ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے ہر با

شور فرداں حقیقت کی تہہ تک پہنچ جاتا ہے کہ نام نہاد دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ کا اصل ہدف کیا ہے اور امریکا و مغرب اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کتاب ان غداروں کو بھی نیگا کرتی ہے کہ جو اقتدار کے سمجھاں پر قبضہ جائے، عوام اور پاکستان کی خدمت کا دعویٰ کرتے نہیں سمجھتے۔ یہ کتاب درحقیقت ایک چارچ شیٹ ہے جس میں اسلام دشمنوں کو خواہ وہ بد لے ہوئے بھیں میں اپنے ہوں یا غیر، عام مسلمانوں کی عدالت میں لا کھڑا کیا ہے۔ یہ کتاب اپنے اندر ایسی ٹھوٹ حقیقتیں رکھتی ہے جن سے کئی نادان مسلمان مغربی پروپیگنڈے کا فکار ہو کر اب تک لاطم تھے۔ یہ بے چارے میڈیا و ارکاشکار ہو کر یہ سمجھتے رہے کہ امریکا کو پوری دنیا سے دہشت گردی کے خاتمے کا غم کھائے جا رہا ہے۔ مغربی میڈیا نے ان سادہ لوح مسلمانوں کے اذہان میں یہ بات ڈال رکھی تھی کہ داشت ہاؤس کے کمین انسانیت کی خفاہت اور امن و امان کے قیام کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اسی مغربی میڈیا کے ذریعے ان کو یہ باور کرو کر اس کا تھا کہ امریکا اور مغرب کے دست و بازو بننے والے "کرانے" کے "اہل ایمان" بھی بیش کو اپنا مقصد میں بنائے آخری "دہشت گرد" کی موت تک "وار آن ٹیرز" کا ایندھن فراہم کرنے کا "نیک" عزم کئے ہوئے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کی اکثریت اس الیہ کا شکار ہے کہ مغربی میڈیا کے میان کرده حالات و واقعات کو بغیر کسی سوٹی پر کھوف رائج تسلیم کر لیتے ہیں۔ اس کتاب میں رقم انسانیت سوز واقعات مغربی میڈیا کے ذمے ہوئے مسلمانوں کے لیے صراط مستقیم کی طرف مراجعت کا باعث اور درس عبرت ہیں۔

اس کتاب میں درج ملا ضعیف کے اس ایک جملے نے میری آنکھیں بھی بھگو دیں کہ "میرے سابقہ" دوستوں سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ وہ امریکیوں سے اتنا ہی کہہ دیتے، اسے ہمارے سامنے مت مارو۔" اس کتاب کو پڑھیں، بار بار پڑھیں اور پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ فیصلہ کریں کہ امریکا و مغرب انسان دوست، جمہوریت پسند اور پوری دنیا میں اُن و

امان کے حقیقی علمبردار ہیں یا اسلام و مسلمان دشمن اور ان کے "ایجنت" ملک و قوم کے خیرخواہ ہیں یا بعض اپنے اقتدار کے حافظ۔ اگر کتاب کے مطالعہ کے بعد آپ حقیقت کو پالیں اور دوست و دشمن کو پیچان لیں تو پھر آپ خود ہی اپنا کردار متعین کر لیں کہ آپ کو اسلام اور مسلمانوں کے دفاع اور ترقی و غلبے کے لیے کون سا محاذ سنجھاتا ہے لیکن خدا نخواستہ اگر یہ کتاب پڑھ کر بھی آپ یہود و نصاریٰ اور ان کے اجئٹوں سے متعلق غلط فہمی میں چلارہتے ہیں اور اسلام و مسلمانوں کے لیے کوئی مؤثر اور قابل ذکر کردار ادا کرنے کا عزم نہیں کرتے تو پھر نہ تاریخ ہمیں معاف کرے گی اور نہ ہی آخرت میں ہم کوئی اعزاز پا سکیں گے۔ اللہ ہم سب کو حق سمجھنے اور اس کے دفاع اور دنیا میں اس کے غلبے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین یا رب العالمین)



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

پیش لفظ

خلق و رازقی کائنات کی حمد و شناز کے ساتھ ساتھ اپنے تمام عزیزوں اور ساتھیوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں اپنے عظیم خالق کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے دنیا کے خونوار بھیڑیوں (امریکیوں) کے پنج سے پانچ لفڑت نکال کرنی زندگی بخشی، نیز ان تمام بھائیوں کا جنہوں نے میری رہائی میں مددی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

دور حاضر کی ظالم و جابر قوت (امریکا) جس نے اکیسویں صدی میں ظلم و جبراً اور دباو کے تحت غیر قانونی گرفتاری و رہائی کا جو عمل روکا ہے اور جہاں انہوں نے گوانتانامو بے میں انسانی حقوق کی تنظیموں اور اقوام متحدہ کے احکامات کو پس پشت ڈال کر بغیر کسی عدالتی کارروائی اور قانون کے قیدیوں کو جوں بے جائیں رکھا ہے میں بھی ان قیدیوں میں سے ایک قیدی ہوں۔ مجھے اپنے "مخلص پاکستانی دوستوں" کی طرف سے (بلبور تھے) ان کے چنگل میں دیا گیا جہاں مجھے گوانتانامو بے کی سماخوں کے چیچے دھکیل دیا گیا اور ٹھیک تین سال دس مہینے بعد مجھے افغان حکومت کے حوالے کیا گیا۔

بہت سے بھائی چاہتے تھے کہ گوانتانامو بے میں روا رکھے جانے والے مظالم سے تفصیلی طور پر باخبر ہو جائیں۔ ملاقات کے لیے آنے والے تمام احباب اور فون پر رابطہ کرنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد کی یہ خواہش تھی کہ گوانتانامو بے کا تصویری خاک جتنا جلد ہو سکے، کی اشاعت کروں اور اسے مسلمان بھائیوں کی خدمت میں پیش کروں۔

میں نے بھی مجبوراً بے رغبتی کے عالم میں خفیہ مانی ضمیر باتیں لکھ دیں لیں اللہ کرے کہ ان میں ان تمام دوستوں کے سوالات کے جوابات دے دیے گئے ہوں۔

محترم اور پیارے قارئین! میرے اس مغلضتہ تحریر میں شاید آپ کے لیے چار چیزیں

قابل اعتراض ہوں۔

(۱) اچھی بات یہ کہ شاید بہت ساری ایسی تحریریں آپ کی نظروں سے گذریں جس میں ادبی پہلو کی اور کبھی الملا کی غلطی ہو جس کی وجہ یہ ہے کہ شتو میں لکھا رہی ہوں اور نہ ہی (تین سال دس مہینے تک قید کی صورتیں اور تشدید کے باعث) میری محنت ٹھیک رہتی ہے، امید ہے کہ آپ میری محنت کو قبول فرمائیں گے۔

(۲) دوسری بات یہ کہ بعض باتیں شاید آپ کے ہنی انتشار کا سبب اور آپ کے دماغ پر بوجھ بینیں یا بعض قارئین شاید یہ اعتراض کر دیں کہ بعض مطالب کو بعض مصلحتوں کی بنا پر ذکر نہ کیا جاتا تو اچھا ہوتا لیکن میں آپ کی موقع و قدر کی قدر و احترام کرتا ہوں مابینہ مجھے دو چیزوں کا بے حد احساس ہے:

(i) نمبر ایک یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ مختلف طریقوں پر وہ سلوک نہ ہو جوان کے خلاف حیوانیت اور بربریت پرستی ہو۔

(ii) دوم یہ کہ انسانی حقوق کے نام پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم و جبر کا بازار دنیا کو دکھایا جائے اور امت مسلم ایسا نہ چال اور زہر ملے شہد سے اپنے آپ کو بچائیں، اس طرح کے پروپیگنڈوں کے مقابلے میں بیدار اور تیار رہے۔

(۳) تیسرا یہ ہے کہ اس تحریر میں آپ کو ناشائستہ اور غلیظ الفاظ میں گے شاید بعض قارئین کی نظر میں وہ ناشائستہ اور ادب سے خالی ہوں یا بعض قارئین اس کو تعصب پر جمل کریں، پیارے قاری! ایسا نہیں خدا کی قسم! مجھے کسی کے ساتھ ذاتی تعصب قطعاً نہیں۔ اس طرح کے الفاظ سے شاید میری مظلومیت آپ پر آڑ کارا اور میرے مظلوم جعل ہوئے دل کا بوجھ کم ہو دوسرا یہ کہ، ہر شخص اپنے اعمال کا مسئول ہے چاہے وہ جو بھی ہو۔

تیسرا بات یہ کہ اس تحریر میں بعض ممالک کی مناقشہ پائیں اور کروکار کو شدید تقدیم کا نشانہ بنایا گیا ہے جس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی ملک کے بارے میں یہ کچھ کہنا چاہیے بلکہ میری تحریر اس وقت کی حکومتوں کے ساتھ خاص ہے۔ میں پڑوں کے ملک، پاکستان میں تقریباً دو سال افغانستان کا سرکاری طور پر سفیر اور بڑا نمائندہ تھا اور یہ وہ وقت تھا کہ بیرونی دنیا (امریکہ

(ویورپ) کی نظر میں افغانستان کی اسلامی امارت کا وجود خطرے کا ایک بڑا غصہ تھا اور انہوں نے بعض افغانیوں کی مدد سے اسلامی امارت کے ختم کرنے کا تھیہ کر رکھا تھا اور اس کے لیے وہ لوگ مختلف طریقوں اور پہلوؤں پر غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ امارت اسلامی کے ختم کرنے کے سلسلے میں بیرونی دنیا میں آباد بعض خلاف اور بیرونی ذمہ کے افغانیوں کے ساتھ صلاح و مشورے اور مختلف ناموں سے کانفرنسیں ہوتی رہیں۔ افغانستان پر پابندی لگائی گئی اور ہر قسم کی تجارتی درآمدات، قرض، لین دین، بینکی حساب کتاب اور حکومتی کاربنڈوں کے سفر، جہازوں کی تجارتی پروازوں پر بھی پابندیاں لگ گئیں۔ جس سے پورے ملک کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، میری زندگی میں یہ لحد انتہائی، کہ آمیز اور پریشان کن تھا۔ اس سے بھی بخت دل آزار پا کتنا کی منافقانہ دورخی سیاست تھی جو ایک طرف تو مقدس جہاد کی باتیں کرتے تھے اور دوسری طرف وہ اپنے اسی پورث اور انقلیب جنس معلومات مظلوم افغانوں کے قتل عام اور افغانستان کی برپادی کے لیے امریکیوں کو دیتے رہے تھے لیکن یہ سب کچھ ہو گیا۔ میں اپنے اس دو سالہ عرصے میں حکومتی ذمہ داروں اور عام لوگوں کے ساتھ کافی اٹھتا ہی سختارہا پاکستانی عوام اسلامی تنظیم اور نشریاتی ادارے جو کہ اسلام دوست مسلمان ہیں اور اسلام کے ساتھ ان کی کامل محبت ہے وہ پاکستان اور اسکیلے پرویز مشرف کے اس ظالمانہ عمل (امریکا کا اتحادی بن کر مظلوم افغان مسلمان بھائیوں کا خون بہانا) کے خلاف تھے اور اس کے لیے انہوں نے صدر پاکستان پرویز مشرف کے خلاف بڑے جلسے، جلوس اور اجتماعی ہریتالیں کیں کہ پاکستان اپنے بڑوی ملک افغانستان کے خلاف ایسا کوئی عمل نہ کرے جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں اس کے ماتھ پر کالا و ہبہ پڑ جائے اور دوسری جانب اسے خود اس کا سامنا کرنا پڑے جو اپنے بڑوی کے لیے چاہتا ہے۔ پشتونیں مثل مشہور ہے کہ ”میرے ساتھ برامت کر کہ تیرے ساتھ ہو جائے۔“

پاکستانی قوم نے افغانستان کے ساتھ بے شمار نیکیاں اور مدد کی ہے۔ (خصوصاً روئی جا رہیت کے بعد جہاں ان کے شانہ بٹانے والوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا وہاں لاکھوں افغانوں کے لیے اپنی سرحدیں کھوں دیں اور آج تک انہیں پناہ دی ہوئی ہے) تاریخ میں انہوں نے افغانوں کے ساتھ

بھائی چارے کا سلوک کیا ہے، پاکستانی قوم قابل صد احترام و عزت ہے کہ جن کا صرف اسلامی اخوت اور بھائی چارے کے جذبے کے تحت طالبان اور اس سے قبل مجاہدین کے ساتھ محبت تھی اور ابھی تک انہوں نے افغان مہاجرین بھائیوں کو اپنے گھر پاکستان میں جگہ دی ہے۔

میں نے بہت سے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کو دیکھا جنہوں نے حکومتی پالیسی کے خلاف طالبان کے ساتھ بڑی مدد کی اور ان کے حق میں حکومت کے خلاف بڑے مظاہرے کیے، یہاں تک کہ خواتین نے اپنے قیمتی زیارت جوان کے ہاں ہر چیز سے قیمتی اور عزیز ہیں، طالبان کو (بطور امداد) دیئے۔

میں نے یہ دیکھا ہے کہ غام غریب مزدور بھی حسب استطاعت اپنا حصہ طالبان کے فنڈ میں ڈالتا رہا یہ میرے دل پر ایک انوکھی تصور ہے۔

میں ان تمام مسلمان بھائیوں کے لیے رب العزت کے دربار میں عظیم اجر و ثواب مانگتا ہوں جنہوں نے مصیبتوں کی گھٹڑی میں افغان بھائیوں کی دلگیری کی، اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر رحمت کریں تو قیامت کے دن جس دن حساب کتاب ہوگا میں ان تمام بہنوں اور بھائیوں کے حق میں گواہی دوں گا جنہوں نے مصیبتوں کی گھٹڑی میں ہمیں نہیں بھالیا اور ہمارا ساتھ دیا۔ ان شاء اللہ گزشتہ دہائیوں میں پاکستانی ملت کی قربانی اور جذبہ (نائن الیون کے بعد) پاکستانی ایجنسیوں اور ایجنسیوں کی منافقتانہ (اور اسلام دشمنی) پالیسی نہیں مناسکتی۔

میں بذاتِ خود ان تمام مسلمان بہن بھائیوں کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے (امریکی) حملہ آوروں کے حملے سے قبل کبھی بقدر استطاعت ہمارا ساتھ دیا تھا۔

اللہ رب العزت ہمیں اس سخت ابتلاء سے بچائے اور آنے والے زمانے کے شر انگیز فتنوں اور زہرآلود چالوں سے ہمارے پاک ملک افغانستان کو پوری اسلامی دنیا سیت بچائے۔

والسلام

عبدالسلام ضعیف

کامل افغانستان

خواب اور اس کی حقیقی تعبیر

میں نے پاکستان میں اپنی گرفتاری سے تقریباً چھ دن قبل ایسا خواب دیکھا جو بڑا دردناک اور وحشتناک تھا جس نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا بڑا بھائی جس کے ہاتھ میں اقسام والی بڑی چھری تھی، لہراتا ہوا میرے قریب آیا، اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے اور مسلسل مجھے گھور رہا تھا، مزید قریب آ کر اس نے زم لبجھ میں کہا: ”بھائی اس چھری سے میں آپ کو ذبح کرنا چاہتا ہوں“ یہ کہہ کر اس نے آستین چڑھائی۔ میں حیران تھا اور وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میرا اپنا بھائی اس قسم کا نازوا ارادہ پامدھ سکتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ کبھی براسلوک بھی نہ کیا تھا، نہ ہی اس کے حق میں کوئی کوتا ہی کی تھی۔ میں نے سوچا آخر اس کو اس خطرناک ارادے پر کسی چیز نے ابھادا ہے۔ اور یہ کہ اگر بڑے بھائی کی خوشی اسی میں ہے تو مجھے ان کی خواہش پوری کرنا چاہیے اور حرامت نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے زمی سے پوچھا: ”بھائی! میں نے کبھی آپ کے ساتھ براسلوک نہیں کیا، پھر آپ نے اتنا خطرناک ارادہ کر لیا، آپ کس بات کا انتقام لیتا چاہتے ہیں اور کیوں غیر شرعی کام کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟“ بھائی نے جواب نہیں دیا اور آگے سے اس پر اصرار کر رہا تھا کہ مجھے آپ کو ذبح کرنا ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ پہلے تو میں اسے مثالوں گا کہ یہ بہت بڑا اقدام ہے۔ لیکن اگر وہ نہ سانا تو پھر بڑا سمجھ کر میں خود قربانی دے دوں گا۔ چنانچہ ہوا یوں کہ میں نے اسے منوائے کی کوشش کی لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا آخر میں نے کہا کہ اپنا ارادہ شوق سے پورا کر لے اور اس امید کے ساتھ زمین پر لیٹ گیا کہ شاید اس کا دل پتھ جائے اور تھوڑا رحم آجائے مگر میری امیدوں پر پانی پھر گیا اور میرے اپنے بھائی نے انتہائی بے رحمی سے چھری میرے گلے پر پھیر کر مجھے ذبح کر دیا۔ میں نے یہ خواب کسی کو سنایا اور نہ خود تعبیر معلوم کرنے کی کوشش کی۔ اس بھی انکے خواب کو دیکھنے کے ٹھیک چار پانچ دن بعد

میں نے پاکستانی حکام کو اپنے گھر کا چاروں طرف سے محاصرہ کرتے ہوئے پایا۔
گرفتاری:

یہ 2 جنوری 2002ء کی صبح تھی، پاکستان میں سال تو کی تقریبیات اختتام پذیر ہو چکی تھیں۔ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ معمول کی زندگی گزار رہا تھا اور ہر وقت افغانستان میں رہنے والے گشادہ بھائیوں اور شہیدوں کی فکر میں بنتا رہتا تھا۔ جو سنگدل خالم دوست کے ہتھے چڑھ گئے تھے۔ میں ان کی قسم پر کڑھتا تھا مگر اپنی تقدیر سے لاعلم تھا۔ تقریباً 8 بجے کا وقت تھا، گھر کے محافظوں نے اطلاع دی کہ چند پاکستانی سرکاری اہلکار آپ سے ملتے آئے ہیں۔ مہمانوں کو ایک چھوٹے سے کمرے میں بھایا۔ یہ تمدن افراد تھے، ان میں ایک پختون (جو اپنا نام گلزار بتاتا تھا) اور باقی دواردو بولنے والے تھے۔ میں نے افغان روایات کے مطابق تینوں مہمانوں کا خیر مقدم کیا اور چائے بسکت سے تواضع کی۔ میں مجس تھا کہ وہ کیا سیغام لے کر آئے ہیں؟

اب تم محترم نہیں ہو:

اردو بولنے والے ایک سیاہ رنگ کے موئے کلین شیو شخص نے جس کے چہرے سے نفرت اور تعصُّب پیکتی تھی جس کا پیٹ پھولا ہوا اور بڑے موٹے ہونت تھے اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے دوزخ کا اپنگی ہو، نے بڑے غیر مودع بانہ انداز میں بات شروع کی اور پہلا جملہ ادا کیا:

Your Excellency you are no more Excellency.

(بڑے محترم اب تم محترم نہیں ہو)

یہ الفاظ تھے جو خفت دشمنی اور تعصُّب کی بنیاد پر استعمال ہوتے ہیں اور کم عقل لوگوں کے منہ سے اکثر و پیشتر استعمال ہوتے ہیں اور یہاں ان الفاظ کی کوئی ضرورت نہ تھی سوائے تعصُّب اور دشمنی کے اظہار کے۔

پھر وہ شخص بولا: ”آپ جانتے ہیں کہ امریکا بہت بڑی طاقت ہے اور کوئی اس کا مقابلہ

کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی اس کا حکم ماننے سے انکار کی جرات کر سکتا ہے، امریکا کو آپ کی ضرورت ہے تاکہ آپ سے پوچھ گئے کی جاسکے۔ ہم آپ کو امریکا کے حوالے کرنے آئے ہیں تاکہ اس کا مقصد بھی پورا ہو اور پاکستان کو بھی بڑے خطرے سے بچایا جا سکے۔” میں نے بحث شروع کر دی اور کہا کہ چلو مان لیا آپ کے بقول امریکا ایک پر طاقت ہے لیکن دنیا کے کچھ قوانین اور اصول بھی تو ہیں، جن کے تحت لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ کن مردِ اسلامی یا غیر اسلامی قوانین کے تحت مجھ سے یہ بدلسوکی کی جا رہی ہے؟ (حالانکہ کسی بھی ملک کے سفیر کا تحفظ اور عزت یمن الاقوامی مسلمانہ اصول ہے) آپ کس کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ آپ کا اخلاقی فرض ہے کہ مجھے میرے سوالوں کا جواب دیں اور مجھے اتنی مہلت دیں کہ میں آپ کا ملک پاکستان چھوڑ دوں۔ میری باتوں پر اس بے رحم بد بخت ”حدود“ نے انتہائی بے شری سے اور غراتے ہوئے کہا: ”آج ہمیں اسلام یا قانون نہیں پاکستان کے مفادات عزیز ہیں۔“ (درحقیقت اپنے شخصی اقتدار کا تحفظ مقصود تھا) میں نے یہ بات سنی تو سمجھ گیا کہ اب کوئی دلیل اور عذر کام نہ آ سکے گا۔ خاموشی اختیار کرنے سے قبل صرف اتنا کہا کہ جو آپ کی مرضی ہے کریں، ہم بے بس اور مجبور لوگ ہیں سوائے خداوندوں کے کوئی دوسرا آسر اور امید نہیں۔ وہی ہمارا حادی و ناصر ہے یہ کہ اس شخص نے کہا کہ آپ 12 بجے تک گھر میں رہیں گے اس کے بعد آپ کو پشاور لے جایا جائے گا۔ میری رہائش گاہ کو چاروں طرف سے محاصرے میں لیا گیا تھا اور باہر جانے کا کوئی راستہ تھا نہ کوئی امید۔ ٹیکی فون کے ذریعے پاکستان کے دفتر خارجہ سے رابطہ کیا مگر سوائے خاموشی کے کچھ ہاتھ نہ آیا اور ذمہ داروں نے جواب دینے سے اعراض کیا۔

گھر سے بیداری:

پھر وہ لمحہ بھی آیا جب میری سرکاری حکام آئے اور شاہی حکم صادر کیا کہ آپ کو پشاور منتقل کیا جا رہا ہے جہاں آپ ہمارے مہمان رہیں گے اور امریکی آپ سے صرف پوچھ گئے کریں گے۔ ہو

سکتا ہے دس دن بعد آپ گھر واپس آ جائیں۔ یہی اطمینان میرے اہل و عیال کو بھی دلایا گیا اور مجھے یقین دلایا گیا کہ جب تک میں ان کا ”مہمان“ ہوں میرے خاندان کی رہائش اور خوراک وغیرہ کا بندوبست کیا جاتا رہے گا۔ میرا یہ سب کچھ ادھر ہی رہ گیا۔ میرے پاس دس مہینے کا ویزا تھا اور حکومت پاکستان کا یہ رکی اجازت نامہ بھی کہ میں اس وقت تک پاکستان میں قیام کر سکتا ہوں جب تک افغانستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے جبکہ اقوام متحده کا وہ لیٹر بھی تھا جس میں پاکستانی حکام کو کہا گیا تھا کہ یہ (ملا عبد السلام ضعیف) اہم شخصیت ہیں ان کا احترام ہونا چاہیے۔

بچوں کی تجھی و پکار:

لگ بھگ 12 بجے کا وقت تھا جب تین گاڑیاں آئیں اور مسلح الہکاروں نے گھر کا محاصرہ کر کے راستے اور لوگوں کی آمد و رفت کو بند کر دیا۔ اس وقت میڈیا کے لوگوں کو بھی مجھ سے ملنے کی اجازت نہ دی گئی۔ مجھے باہر نکلنے کا حکم دیا۔ میں ایسے حال میں گھر سے نکلا جب میرے بیوی پچھے تجھی و پکار کر رہے تھے۔ میں اپنے بچوں کی طرف مڑ کر نہ دیکھ سکتا تھا کیونکہ میرے پاس ان کے لیے تسلی کا ایک لفظ بھی نہ تھا۔

”اسلام کے محافظ“ پاکستانی حکام سے مجھے ہرگز یہ موقع نہ تھی کہ مجھے چند پیسوں کی خاطر امریکا کو ”تجھے“ بتا کر پیش کر دیا جائے گا (جس کا اعتراض جزل پر وزیر مشرف نے اپنی کتاب ”ان دی لائن آف دی فائز“ میں بھی کیا ہے) میں اس فکر میں گھر سے نکلا کرتا تسلیم کیوں ہو رہا ہے؟ کہاں گئی جمہوریت اور کہاں گئے انسانی حقوق؟ مقدس جہاد کی باتیں کرنے والوں کو آخر کیا ہو گیا؟ مجھے ایک گاڑی میں درمیان میں بٹھایا گیا۔ گاڑی کے شیشے کا لے تھے جن کے آر پار کچھ نہ دیکھا جا سکتا تھا۔ ہماری گاڑی کے آگے سیکورٹی کی گاڑی تھی جبکہ تیری گاڑی ہمارے پیچے تھی جس میں مسلح الہکار تھے۔ مجھے پشاور روائی کیا گیا۔ راستے میں نسوانی آواز میں گانے سائے جاتے رہے تا کہ مجھے نگہ کیا جائے اور وہی تشدید کا نثارہ بنایا جائے۔ میں نے راستے میں ظہر کی نماز پڑھنا چاہی جو قضاۓ ہونے کے قریب تھی مگر کہا

گیا کہ پشاور میں پڑھ لو گے۔ میرے بار بار مطالبے پر بھی پروانہیں کی گئی۔ پشاور پنجھو تو ایک دفتر نما جگہ لے جایا گیا۔ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ کون سی جگہ تھی۔ مجھے ایک کمرے میں لے جایا گیا جو خوبصورت میز اور کرسیوں سے سجا ہوا تھا۔ کمرے میں قائد اعظم کی تصویر تھی جبکہ میز پر پاکستانی جنڈا لگا ہوا تھا۔ سامنے گھونٹے والی کرسی پر پاکستانی شلوار قیص میں ملبوس ایک میانہ قد پختون بیٹھا مسلسل کریں میں گھوٹے چار ہوا تھا۔ اس نے مجھے خوش آمدید کہا اور اپنا تعارف دفتر کے سربراہ کے طور پر کرایا۔ اس نے کہا کہ ”آپ ہمارے ایسے مہمان ہیں جن کے آنے پر ہم بہت خوش ہیں“ میں ان الفاظ کے معانی جانے سے قاصر تھا مگر لگتا تھا کہ وہ شخص ٹھیک کہتا تھا، شاید وہ خوش اس لیے تھا کہ اس کو میرے فروخت کرنے کے عوض بہت اچھا معاوضہ ملنے والا تھا۔ انسانوں کے سوداگروں (درحقیقت ضمیر فروشوں) کے لیے ڈالروں کے بد لے کسی مسلمان کا سودا جائز اور عین ”جہاد“ ہے۔

یہاں میں نے نماز پڑھی۔ دفتر کے سربراہ نے چائے پلانی اور کھانا کھلایا۔ پھر مجھے ایسے کمرے میں لے جایا گیا جو قیدیوں کے لیے مخصوص تھا۔ نبتابا اچھا کرہ تھا جس میں گیس، بجلی وغیرہ کی سہولت تھی، جو سردی کو روکتی تھی، اچھی با تحد روم تھا جہاں پانی وافر مقدار میں موجود تھا۔ اچھی خوراک دی گئی، قرآن پاک کا نسخہ اور قلم کتاب پہنچی دیا گیا، ایک پھرے دار کو مجھ پر نظر رکھنے پر مأمور کر دیا گیا جس سے جو مانگتا، دے دیتا تھا۔ تفتیش وغیرہ کا سلسلہ نہ تھا البتہ ایک شخص بار بار آتا جو عہدیدار معلوم ہوتا تھا پشتونہیں جانتا تھا اور مجھے اور دوسریں آتی تھی اس نے مجھ سے انگریزی میں پوچھا:

What will happen?

(کیا ہونے والا ہے؟)

میں نے جواب دیا اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔

اس دوران حکام آتے، اچھے طریقے سے سلام دعا کرتے اور مجھے احترام دیتے،

گوانتانامو بے کی کپانی ملا ضعیف کی زبانی

34

باتشیں نہیں کرتے تھے مگر صاف دکھائی دیتا تھا کہ جب وہ مجھے دیکھتے تو ان کی آنکھوں میں آنسو اور آتے اور واپس پلٹ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کرے میں آیا بہت احترام دیا پھر اچانک بلک کرونے لگا۔ اتنا رہا کہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کو انھا کر باہر لے جایا گیا جس کے بعد کوئی کرے میں نہیں آیا۔ چار گھنٹے بعد مجھے (پروگرام کے مطابق) امریکیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس واقعہ سے پہلے میں نے دو راتیں اسی کرے میں گزاریں۔ تیسری رات 11 بجے کے قریب میں نے سونے کا ارادہ کیا کہ اچانک دروازہ کھلا اور شلوار قیص میں ملبوس چھوٹی ڈاڑھی والا ایک شخص اندر داخل ہوا اور خیریت دریافت کرنے کے بعد پوچھا کیا ہونے والا ہے؟ میں نے لاطمی ظاہر کی، پھر اس نے کہا ہم آپ کو دوسرا جگہ منتقل کر رہے ہیں۔

”خدا حافظ“:

میں نے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے کیونکہ مجھے سچ کی امید نہیں تھی۔ مجھے واش روم استعمال کرنے کے لیے پانچ منٹ دیے گئے۔ ٹھیک دس منٹ بعد کرے سے نکال کر ہیلی بار چھٹکریاں لگائی گئیں اور آنکھوں پر کالمی پٹی باندھی گئی، جیبوں کی تلاشی لی گئی اور ڈیجیٹل ڈائریکٹری، پاکٹ سائز قرآن مجید کا نسخہ اور کچھ رقم لے کر مجھے دھکے دے کر گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے افراد خاموش تھے، کوئی کچھ نہ بول رہا تھا۔ گاڑی نے حرکت کی اور لگ بھگ ایک گھنٹے بعد میں نے ہیلی کا پڑکی آوازنی۔ مجھے (آثار و قرائن سے) یقین ہونے لگا کہ ہیلی کا پڑک امریکی ہے۔ پھر فتح رفتہ گاڑی ہیلی کا پڑک کے قریب ہوتی گئی اور اس کی آواز کا نوں کو چھاڑنے لگی۔ اس دوران مجھے ضرب پڑی اور میری کلامی پر بندھی قیمتی گھڑی اس ضرب کے نتیجے میں گر گئی یا (اس بہانے) مجھے سے لے لی گئی۔ ہیلی کا پڑک کے قریب پہنچ کر مجھے دو افراد کی مدد سے گاڑی سے انتارا گیا اور ہیلی کا پڑک سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا کر دیا گیا۔ چند لمحوں بعد میں نے ”خدا حافظ“ کے الفاظ سے

یہاں مجھے پوری طرح یقین ہو گیا کہ میں امریکیوں کے حوالے کر دیا گیا ہوں۔
امریکیوں کی حوالی:

”خدا حافظ“ کے الفاظ سننے کے بعد میں نے کچھ لوگوں کی آوازیں سنیں جو انگریزی میں باتیں کر رہے تھے۔ پھر اچانک وہ لوگ ریچپوں کی طرح مجھ پر حملہ آور ہو گئے اور مجھ پر لاتوں، گھونسوں اور مکوں کی بارش کرنے لگے۔ یہ سب اتنا کچھ اچانک تھا کہ مجھے کچھ بھی میں نہ آیا۔ میرے کپڑے پھاڑنے کی کوشش کی گئی، کبھی اونچے ہے منہ لٹا دیا جاتا، کبھی کھڑا کر کے دھکا دے دیا جاتا، میرے کپڑے چاقوؤں کی مدد سے پھاڑ دیئے گئے، اس دوران میری آنکھوں پر بندھی پہنی اتر گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک طرف پاکستانی فوجی قطار بنائے کھڑے تھے جبکہ ساتھ ہی آفسرز کی گاڑیاں تھیں جن میں ایک پر جہنڈا لگا ہوا تھا۔

تماشہ دیکھتے رہے:

امریکیوں نے مجھے مارا پیٹا اور بے لباس کر دیا مگر اسلام کے یہ محافظ ”میرے سابق دوست“ یہ تماشہ دیکھتے رہے اور ان کی زبان پر گلے تالے میرے لیے ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے میری حوالگی کے سارے تقاضے پورے کر رکھتے تھے۔ یہ وہ لمحات تھے جن کو میں قبر میں بھی نہ بھول سکوں گا۔ میں کوئی قاتل، چور، ڈاکو یا قانون کا مجرم نہیں تھا، (بلکہ ایک مسلمان ملک کا باقاعدہ سفیر تھا) مجھے بغیر کسی جرم کے امریکا کے حوالے کیا جا رہا تھا۔ وہاں موجود آفسرز کم از کم اتنا تو کہہ سکتے تھے (مگر غلام اتنا کہنے کی ہست بھی نہیں رکھتے) کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، ہماری موجودگی میں ان کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جائے۔ وحشی، متعصب اور بے رحم امریکی فوجیوں نے ایسی حالت میں مجھے زمین پر پڑ دیا کہ میرا جسم نہ گا تھا، (انگلی اور مادر پدر آزاد تہذیب کے پروردہ یا فتوں کے لیے ایک مسلمان کا بہرہ ہونا کیا حیثیت رکھتا ہے؟) پھر مجھے ہیلی کا پڑ میں دھکیلا جہاں میرے ہاتھ پاؤں زنجروں سے کس کے بامدھ دیئے گئے اور آنکھوں پر پٹی بھی دوبارہ باندھی گئی۔ انہوں نے اسی پر اکتفا نہ کیا میرے چہرے کو سیاہ تھیں

سے بھی ڈھانپ دپا۔ پھر میرے ارد گرد سر سے پاؤں تک رسی باندھی اور ہیلی کا پڑ کے وسط میں زنجیر سے باندھ دیا۔ ہیلی کا پڑ فضا میں بلند ہو گیا۔ میں جب حرکت کی کوشش کرتا تو زور دار لات پڑتی، مجھے ایسا لگا کہ آنے والے چند بھوؤں میں میری روح اور جسم کا رشتہ ختم ہونے والا ہے۔ مجھے یہ یاد نہیں کہ میں کتنی دیر تک اس کرب میں بنتا رہا۔ آخر کار ہیلی کا پڑا ایک جگہ اتر گیا، وحشی امریکی درندوں نے ہیلی کا پڑ سے گھینٹتے ہوئے مجھے نیچے پھینک دیا جس کے ساتھ ہی وہاں پہلے سے موجود دوسرا امریکی بھی مجھ پر تابوت توڑ جملے کرنے لگے اور میرا وہ حال کیا جو بیان سے باہر ہے۔ الثالثا کر میرے اوپر چار پانچ افراد بیٹھ گئے اور ایسے باقیں کرنے لگے جیسے کسی اجلاس میں بیٹھے ہوں۔ میری سانس نہیں کل رہی تھی، بے اختیار دل ہی دل میں حضرت عزرا نسل کو پکار رہا تھا کہ اے عزرا نسل! کہاں ہو؟ ۹۹؟

مگری بیٹرے میں:

مجھے اس جگہ دو گھنٹے اسی کرب میں رکھا گیا پھر دوسرا ہیلی کا پڑ میں سوار کرا کر ایک آہنی کرسی سے باندھ دیا گیا۔ اب کی بار مجھے مار نہیں پڑ رہی تھی۔ 20/25 منٹ بعد ہیلی کا پڑ نیچے اتر۔ مجھے اندر ہی کھڑا کیا گیا۔ یہاں متعدد چہازوں کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ مجھے نیچے اتار کر چہرے سے نقاب ہٹا دیا گیا اور آنکھوں کی پٹی بھی اتار دی گئی، دیکھا کہ چند امریکی فوجی کھڑے ہیں۔ باائیں جانب ایک قید خانہ نظر آ رہا جس میں چند قیدیوں کو باندھا گیا تھا۔ اسی جگہ مجھے بھی ڈال دیا گیا، یہاں موجود ایک چھوٹے سے واش روم میں مجھے منہ ہاتھ دھونے کو کہا گیا مگر میرے ہاتھوں میں سکت نہیں تھی (کہ میں اپنے ہاتھ دھولیتا) میں نے اتنا کیا کہ خود کو گیلا کر دیا، پھر مجھے ایک چادر دے کر ایسے کرے میں لے جایا گیا جو دو میٹر لمبا اور ایک میٹر اونچا تھا۔ زخم حاجت کی جگہ بھی اتنی سی جگہ میں تھی۔ کرے کی دیوار میں آہنی تھیں اور پر سے مضبوط آہنی جالیاں بھی لگائی گئی تھیں۔ مجھے سونے کا کہا گیا مگر نہ بستر تھا تکیہ۔ حیران تھا کہ میں کہاں لا لایا گیا ہوں اور مزید کس سلوک کا سامنا کرنا پڑے گا؟

گوانٹانامو بے کی کہانی ملا ضعیف کی زبانی

ایک فوجی کمرے کے سامنے کھڑا تھا خوب سوچ پچار کے بعد مجھے علم ہوا کہ یہ ایک بالکل بند جگہ تھی تین اور چھوٹے کمرے تھے اور ایک کلینک، ایک میڈیکل اسٹور تھا جس کے ساتھ ایک کپوڈر ہمیشہ بیٹھا رہتا تھا اس کمرے کا ایک دروازہ تھا اور پانی کی بھی کمی تھی یہاں پہنچ کر مجھے محسوس ہوا کہ شاید اندر گراوڈ جیل ہو، جنہیں افغانستان کی جگہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہو۔ صبح و شام نقل و حرکت اور بھاری مشینری کی آوازوں سے بہت جلد میرے احساسات یقینیات میں بدل گئے اور یہ واقعی ایک اندر گراوڈ جیل تھی جنہیں افغانستان کی جگہ کے لیے مختص کیا گیا تھا اور ہم اس کے نیچے چھٹے بلاک میں تھے۔

ویگر طالبان رہنماؤں کے ساتھ:

اس کے علاوہ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا اور بہت کم پکلوں کو حرکت دیتا تھا اور زبان ہالوں کے ساتھ چپک گئی لیکن میں سوچتا رہا، باسیں جانب ایک بڑا کمرہ دکھائی دے رہا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس میں بھی قیدی ہیں۔ میں نے یہ سوچا کہ شاید بعض طالبان بھائی بھی یہاں ہوں، صبح کھانے پر تمام قیدی بھائیوں کو معلوم ہوا کہ ان کا ایک اور بھائی بھی یہاں قیدی بن کر آیا ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کر سکتے تھے، البتہ ہم روٹی کی آڑ میں چپکے چپکے چوری سے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے، دو دن کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ملا فاضل محمد، نور اللہ نوری صاحب، میر ہان ویشن صاحب اور غلام روحانی بھی یہاں قید ہیں لیکن پھر بھی ہم آپس میں گفتگونہ کر سکے یہ تمام طالبان رہنماء تھے۔

ملائم کہاں ہیں؟

صبح مجھے ہھڑی پہنا کر ایک دوسرے کمرے میں لے جایا گیا جہاں تیتیش کا پہلا دور شروع ہوا، میری الگیوں کے نشانات لیے گئے، فولوگرافی ہوئی اور ہائیگرافی لکھی گئی۔ اس کے علاوہ کوئی سوال جواب کیے بغیر واپس اسی قید خانے میں لاایا گیا جہاں رات کا کھانا پلانٹ کے برتوں میں پڑا۔ پلاکا پھلا کھانے کے بعد برلن فوجیوں کو واپس کر دیے جس

کے بعد سونے کا ارادہ باندھا۔ ابھی آنکھیں بند ہی ہو رہی تھیں کہ فوجوں کے شور سے جاگ گیا۔ مجھے پکڑ کر دوبارہ تیشیں والے کمرے میں لے جایا گیا جہاں پہلی دفعہ مجھ سے اسامہ بن لا دون اور ملائیر کے بارے میں سوالات پوچھے گئے کہ وہ کہاں تھے؟ کہہر چلے گئے؟ ابھی کہاں ہوں گے؟ اور کیسے ہوں گے؟ عام طور پر طالبان کے رہنماؤں کے متعلق پوچھا گیا کہ ان کا کیا بنا؟ وہ کہہر ہیں؟ اور کیسی حالت میں ہیں؟ وہ کہاں چلے گئے؟ ایک سوال وہ بار بار پوچھتے رہے کہ انہیں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ کو کوئی معلومات ہیں؟ یا آپ نے اس کے متعلق کچھ سنائے؟

ابتدا یہ مقصودی سوالات تھے کہ پہلی بار وہ اس کے جوابات کے متلاشی تھے اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ علم بھی تھا کہ اس واقعے سے میرا کوئی رابطہ نہیں تھا اور نہ ہی مجھے اس کا علم ہے۔ ابھی تک کسی کو بھی اس کا سراغ نہ مل سکا۔ ہزاروں لوگ بے عزت کیے گئے، ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، ہزاروں مسلمان قیدی ہٹائے گئے اور ابھی تک قتل و غارت گری اور قید و بند کا سلسہ جاری ہے۔

ابھی تک اس کے کوئی شواہد عدالت کو پیش کیے گئے اور نہ ہی امریکی قوم کو اطمینان بخش جواب دیا گیا۔ (جب شواہد اور ثبوت ہی نہیں تھے کہاں سے عدالت میں پیش کرتے اور کیسے اپنے عوام کو اس پر مطمئن کرتے؟ بلکہ آہستہ آہستہ اس صہیونی سازش کی حقیقت کھلتی چلی گئی اور یہ پرده سازش سے پرده اٹھا) یکطرفہ طور پر بغیر کسی دلیل و شواہد کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور بغیر کسی قانون و قاعدہ کے قلم و جیر کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ (امریکہ کے نزدیک بین الاقوامی مسلمانہ اصول و قوانین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جس کا مشاہدہ عراق کے خلاف جاری ہے اور عملی اقدام نے کیا گیا تھا)

فولادی پنجہ:

دہشت گردی کا لفظ امریکیوں کے لیے ایک فولادی پنجہ ہیں جسے چاہتے ہیں وہ اس

سے اس کا سردے مارتے ہیں اور ان کی گرفتاری اور رہائی عمل میں لاتے ہیں اور ان کا کیا مکروفریب دوسرا نے تمام ملکوں پر آشکارا ہو چکا ہے۔ چار پانچ دن تک یومیہ تفتیش دو مرتبہ مکر ہوتی رہی اور وہی پرانے سوالات پوچھتے جاتے رہے لیکن میرے لیے یہاں اچھی بات یہ تھی کہ یہاں کوئی تختی، مارپیٹ اور سزا نہ تھی لیکن طبعی طور پر ایسے تجھک مکان میں زندہ رہنے کے باوجود زندگی بڑی مشکل سے بسر ہوتی ہے۔

"باتیں مت کرو اور ہلو مت":

پانچ چھوٹے دن کے بعد صبح ناشتے پر مجھے خاکی رنگ کا یونیفارم دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ پرانے یونیفارم کی جگہ اسے پہن لو، یونیفارم تبدیل کرنے کے فوراً بعد منتقلی کا کام شروع ہو گیا۔ تمام قیدیوں کے ہاتھوں کو پلاسٹک کی رسی سے باندھا گیا اور ان کے سروں پر تھیلے چڑھائے گئے تھیلوں کے تسموں کو ان کی گردنوں کے ساتھ باندھا گیا، آخری باری میری تھی۔ میرے ہاتھوں کو بھی رسیوں سے باندھا گیا، سر پر تھیلی چڑھائی گئی اور تہہ خانے سے اوپر لا کر ان قیدی بھائیوں کے ساتھ بٹھایا گیا جنمیں مجھ سے پہلے لایا گیا تھا، قیدیوں میں پانچ افغان تھے جن کے نام میں نے پہلے ذکر کر دیے، دو عرب، اور ایک امریکی مسلمان تھا اور تو ان میں تھا۔ یاد رہے کہ میرے اور ان کے یونیفارم میں فرق تھا، میرا یونیفارم خاکی اور ان کا آسمانی کلر کا تھا۔ کافی دیر تک ہمیں وہاں اس بند حالت میں بٹھایا گیا، سخت رسی سے باندھنے اور دم کھینچنے کی ٹھکائیت کی وجہ سے ساتھیوں کی مسلسل چینیں لکل رہی تھیں۔ کوئی قیدی پانی ماگ رہا تھا تو کوئی ہاتھوں کے درد کی ٹھکائیت کر زہا تھا، کوئی چینتا تھا کہ میرا دم گھٹ رہا ہے لیکن انسانیت نام کی کوئی چیز نہ تھی جو ہماری آوازوں کو سنتے اور ہمیں درد و قید سے چھڑا کر پانی پلاتے اور سروں سے تھیلے ہٹا کر ہمیں ساتھ لینے دیا جاتا، خالی فوجیوں کی آوازیں اور نعرے تھے جو ہمیں انگریزی زبان میں لتاڑتے تھے اور کہتے تھے (Shut up and Stop Movement)

آوازیں تھیں۔ دو تین کھنٹے ہمیں یہاں رکھا گیا اور پھر ہیلی کاپڑوں کے اندر ڈال کر باندھا گیا۔ تقریباً 25 منٹ سفر کے بعد ہمیں ایک اور جگہ منتقل کیا گیا ہمیں ہیلی کاپڑ سے نیچے میں پر گرایا گیا اور وہاں موجود فوجوں نے ہمارے جسموں کے ساتھ فٹ بال کھیلنا شروع کر دیا۔ لاتمیں اور گھونے:

مختلف فوچی آتے رہے اور ہمیں لا توں اور گھونسوں سے سخت مارتے رہے یہاں تک کہ فوچی اپنے بوٹوں سے ہماری انگلیاں زمین کے ساتھ رومندتے رہے اور ہماری چیزوں بلند ہوتی رہیں، اسی اشناہ میں ایک فوچی مجھے علاش کرنے کے سطھے میں میرے پاس آیا، میرے سر سے تھیلا اٹھایا اور پھر دوبارہ پہننا کر شناخت کے بعد چپ چاپ چلا گیا۔ میں نے اس وقت اپنے دوسرے قیدی بھائیوں کو دیکھا کہ وہ سخت تکلیف میں تھے۔ امر کی فوچی ان کے جسموں سے لا توں اور گھونسوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور ان کی چیزوں بلند ہو رہی تھیں۔ یہاں ہم اتنے سخت عذاب میں تھے کہ وضو اور نماز نہیں پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اشارہ سے نماز پڑھ سکتے تھے، اس لیے کہ ہماری تھوڑی سی حرکت پر وہ ہم پر لا توں کی بارش کرتے۔ ایک لمحے کے لیے ہمیں چھوٹے پیشاب کے لیے اٹھایا گیا جس سے ہماری طبیعت قدرے سنجل گئی، کئی بار ہیلی کاپڑ لینڈنگ کرتے رہے اور بار بار پرواز کرتے رہے، بلا آخررات کے شروع ہوتے ہی ایک ہیلی کاپڑ ہمارے بہت قریب آیا اور ہمیں اس کے اندر ڈال دیا گیا۔

پل صراط اور حالت نزع:

ہیلی کاپڑ کی منتقلی پل صراط کا پل اور حالت نزع کے برادر ہوتا تھا اتنا سخت عذاب تھا کہ جسے میں آج بھی تصور نہیں کر سکتا۔ گوانتانا مو بے میں ہمیں ہمیشہ اپنی منتقلی کی تکرہ ہوتی تھی کہ وہ خدا نخواستہ دوسری جگہ منتقل کس طرح ہو گی۔

ہمیں ہیلی کاپڑ کے اندر ہاتھ پاؤں سے مضبوط باندھا گیا اس طرح کہ ڈھل پئے ہمارے سینے اور رانوں کے اوپر لپیٹ کر جہاز کے دوسرے حصوں سے مضبوط باندھ دیا گیا

گواتاما موبے کی کہانی ملا ضعیف کی زبانی
اپنے میں نیم لیئے اور شیم بیٹھے ہوتے تھے نصیح طرح لیٹ سکتے تھے اور نہ ہی صحیح طرح بیٹھے سکتے تھے۔

بگرام ائیر پورٹ:

ریڑھ کی بندی میں شدید تکلیف ہو رہی تھی اور سانس ٹھہر رہا تھا لیکن صبر کے سوا کوئی راستہ نہ تھا ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا لینے لگ جاتے تو فوجی وحشی ہمیں بوٹ سے سخت مارتے، ساتھیوں کو پیشا ب اور پیاس کے تقاضے کے باوجود اجازت نہیں ملتی تھی اور تر جان بھی نہ تھا یا پھر وہ بھی فوجوں کے ساتھ طلا ہوتا تھا راستے میں دو گھنے ہیلی کا پڑا ترا اور پھر اڑاں بھری کافی دری بعد ہیلی کا پڑا ایک جگہ اتر اور یہ بگرام ائیر پورٹ تھا۔

”امریکا عدل و انصاف کا گھر ہے：“

مجھے فوجوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ چیپے کپی زمین پر پھینکا، چند فوجی یہ نظرے لگا رہے تھے (This is the big one) یہ ان کا بڑا ہے، پھر انہوں نے مجھ پر لاتوں اور گھونسوں کی پارش شروع کر دی میں نے تو کلانٹوف کے بٹ بھی محسوس کئے میرے جسم سے کپڑے الگ ہو گئے خالی سر پر تھیلا اور ہاتھ پاؤں میں بیڑی گلی ہوئی تھی، تازہ تازہ برف پاری ہو چکی تھی چند گھنٹوں کی مار پیٹ کے بعد انہوں نے مجھے نگاہ برف پر پھینک دیا۔ فوجوں کی موجودگی میں ایک خاتون مسلسل غزل پڑھ رہی تھی اور فوجی لوگ میرے جسم کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ غزوں کا ایک نکولا ابھی تک مجھے یاد ہے دہ گارہ تھی:

”امریکا عدل و انصاف کا گھر ہے اور عدل و انصاف کا خواہاں ہے، ہر آدمی کے لیے

النصاف چاہتا ہے۔“

(بشرطیکہ مسلمان نہ ہو کیونکہ مسلمان ان کے نزدیک انصاف کا کوئی اختلاف نہیں رکھتا) اس وجہ سے وہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا وحشی طریقہ روا رکھتے ہیں اور اس طرح کی غزل گاتے رہتے ہیں۔ ایسا وحشی طریقہ کہ جس کا نہ تو عدل و انصاف سے کوئی واسطہ ہے اور

نہ ہی کوئی دوسرا سے عدل و انصاف کہہ سکتا ہے۔
 برف پر شدید سردی تھی جسم بالکل شل ہو کر کا نہتا تھا اور فوجی مسلسل چینتھ تھے Stop Movement (حرکت مت کرو، مت ہو) لیکن شدید سردی کی وجہ سے جسم کی لرزش اور کپکپا ہٹ رکھا میرے بس میں نہ تھا آخراً تین چار گھنٹے بعد شدید سردی کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا اور پھر مجھے اپنا پتہ نہ مل سکا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک ایسے بڑے کمرے میں پڑا ہوا تھا جس میں دھوپ پڑتی تھی، تقریباً یہ دن کے نو دس بجے کا وقت تھا میرے جسم میں شدید درد تھا جو میرے لیے بالکل ناقابل برداشت تھا۔

اسامہ کہاں ہے؟

میں نے دیکھا کہ میرے سا۔ منے دائیں جانب دو فوجی جو سر پر کالی تھیلی اوڑھے اور ہاتھوں میں ایک بڑا ڈنڈا لیے میری طرف بارنے کی غرض سے بڑھ رہے تھے اور باسیں جانب دو کالے ہاتھی نہادیو فوجی ہاتھوں میں پستول تھا میں کھڑے تھے دوسرا فوجیوں کے پاس بندوقیں تھیں۔ (جمهوریت، انسان دوستی اور مہذب دنیا کے دعویداروں کا یہی طریقہ تفتیش ہے) میرے سر پر کھڑے سب ایک ہی بلند آواز میں یہ تین چیزیں پوچھتے تھے:

1- Where is Usama?

اسامہ کہاں ہے؟

2- Where is Mulla Omar?

ملاء عمر کہاں ہے؟

3- What did you do in New York and Washington?

تو نے خویارک اور واشنگٹن کے بارے میں کیا کیا؟

ہر داڑھی والا افغان، طالبان:

(امریکی درمندے ہر داڑھی والے افغان کو طالبان اور القاعدہ کا رکن خیال کرتے تھے،

گواہنا موبے کی کہانی ملا ضعیف کی زبانی

جو بھی ان کے ہاں گرفتار ہو جاتا، ہر ایک سے یہی سوالات پوچھتے اور بار بار دہراتے۔ حالانکہ نائیں الیون کے واقعہ میں ملوث ہوتا تو دور کی بات ہے بعض ایسے قیدی بھی تھے جنہوں نے کبھی نبیارک کا نام بھی نہ سناتھا اور نہ پیغماگون کی تصویر دیکھی تھی لیکن امریکی ان سے بھی پوچھ کر تھے)

یہ لوگ جب سلسلہ چیخنے اور پھر انہیں معلوم ہوا کہ میرے اندر بولنے اور حرکت کرنے کی طاقت نہیں تو انہوں نے کچھ وقت کے لیے مجھے چھوڑ دیا اور پھر آسمانی ٹکر کا یونیفارم پہنا کر مجھے ایک شندے گزھے میں پھینکا گیا، شدید تکلیف اور سردی کی وجہ سے میں پھر بے ہوش ہو گیا، جب دوبارہ ہوش آیا تو میں ایک لحاف کے اندر پھینٹا ہوا تھا۔ ہر یہ مشکل سے میں نے سر لحاف سے اس حال میں نکالا کہ میرے ہاتھ اور پاؤں زنجروں سے جکڑے ہوئے تھے۔

چوبیس گھنٹے کچھ نہ کھایا:

میں سوچتا رہا کہ یہی کیوں باکا جیل خانہ گواہنا موبے ہو گا لیکن پھر نظر دوڑانے کے بعد میں نے وہاں دیواروں پر طالبان کی پرانی تحریریں بحث تاریخ دیکھیں تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو کیوں انہیں افغانستان ہی ہے (جس کا کبھی میں سفیر تھا) یہ ایک چھوٹا ساٹوٹا پھوٹا کمرہ تھا۔ گیٹ پر ایک امریکن خاتون فوجی پیشی تھی جو میرے پاس آئی اور پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے؟ لیکن مجھے میں تو زبان ہلانے کی سخت نہ تھی وہ بار بار پوچھتی کہ آپ کو انگلش آتی ہے؟ آخر جواب نہ ملنے پر وہ بھی واپس جا کر اپنی جگہ پیش گئی، یہ عمر کا نام تھا، پورے دن کی نمازیں قضا ہو گئی تھیں اور میرے اندازے کے مطابق اب تک 24 گھنٹے گزر چکے تھے کہ میں نے نہ کچھ کھایا نہ ہی کچھ پیا تھا۔

مظلوم کی دعا:

جسم کی ساری ہڈیوں میں شدید درد تھا۔ میرے سر اور کندھوں کو نوجیوں نے تشدیک کر کے

توڑ دیا تھا، میرا چھرہ خون سے سرخ تھا اور میں بڑا پریشان تھا کہ اور مزید کیا ہو گا؟ اور میں اس طرح کی دعا کیں۔ بہت کرتا تھا کہ یا اللہ! آپ مجھ سے راضی ہو جائیے، دوسرے مسلمان بھائیوں کو اس قسم کی تکالیف سے بچائیے، کسی بھی مسلمان کو ہماری طرح ذلت کے امتحان میں مت ڈالیے، خصوصاً علماء کرام کو اس آزمائش سے محفوظ فرمائیے، اس لیے کہ ان کی بے عزتی تمام مسلمانوں کی بے عزتی ہے۔ اے رب! تو اپنی رحمت سے افغانستان کے مظلوم عوام کی مد弗 رہا اور ان کی حفاظت فرم۔

سخت اور مشکل وقت میں میر غے منہ سے یہی الفاظ نکلتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائیں۔ رات آپنی، جزیرہ اسٹارٹ ہوا اور کمرے کے اندر ایک بلب روشن ہوا۔ میری زبان میں تھوڑی سی حرکت پیدا ہوئی اور میں نے فوجی خاتون سے دھیں اور پست آواز میں کہا (Can you help me) (کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟) اس نے پوچھا کس چیز کی ضرورت ہے؟ میں نے نماز پڑھنے کی اجازت مانگی تو اس نے اجازت دیدی اور میں نے زنجیر میں بند ہاتھوں سے تیم کر کے نماز پڑھنی شروع کروی، اسی اثناء میں دو اور آدمی آئے اور کونے میں چھپ کر بیٹھ گئے، میں بہت ڈر رہا تھا کہ نماز میں ہی مجھے روک نہ دیں لیکن اللہ تعالیٰ نے خیر کا معاملہ کیا اور میں نے نماز پڑھ لی۔

بگرام میں تفتیش کا مرحلہ:

نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں ان کی طرف متوجہ ہوا تو وہ دو آدمی جو بیٹھے تھے۔ ایک فوجی درودی میں جبکہ دوسرا امکی سول لباس میں تھا۔ اس نے مجھ سے فارسی زبان میں پوچھا کہ کیا حال ہے؟ اس کا لیب ولہجہ ایرانی فارسی کی طرف مائل تھا اور اس کا نام فرید تھا جو کہ اصلًا امریکی تھا اور ایران میں اس کی پروردش ہوئی تھی جبکہ دوسرا ایک موٹا کالا امریکی تھا۔

ان دو آدمیوں نے مجھ سے پوچھا "آپ کی صحت کیسی ہے؟ سردی تو نہیں گئ رہی؟"

میں صرف الحمد للہ! کہتا تھا، گزرے واقعات و عذاب کا میں ان کے سامنے تذکرہ نہیں کرتا تھا اس لیے کہ میرے خون آلود چہرے سے سب کچھ عیاں تھا۔ اس کے بعد انہوں نے سوالات پوچھنا شروع کیے پورے سوالات کا محور صرف ایک ہی ہوتا تھا کہ اسامہ اور ملا عمر کہاں ہیں؟ میں جس طرح ان کی زندگی اور موت سے بے خبر تھا تو جوابات عموماً غافلی میں تھے اس پر ان کے چہروں کے رنگ بدلتے رہے اور آہستہ آہستہ ان کا لہجہ سخت ہوتا رہا ان کی باتوں میں حملکی کا پہلو صاف اور واضح تھا لیکن میرے پاس وہی منفی جواب تھا اور ان کے سخت روئے نے مجھ پر کوئی اثر نہیں کیا۔

چھ دن بعد کھانا کھایا:

چھ دن گزر گئے تھے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا تھا اس لیے کہ ایک سال پرانا پیک شدہ فوجی کھانا یا تو میں کھانا نہیں سکتا تھا یا پھر مجھے ان کے حلال و حرام کا پتہ نہیں چلتا تھا، چھ دن گزرنے کے بعد مجھے آدمی روٹی اور ایک کپ چائے تفتیش کار کی طرف سے ملی، اس کے بعد تقریباً ایک روٹی روزانہ مجھے دیتے تھے۔ ایک مہینے سے میں یہاں تھا اور یہاں موجود فوجیوں کو یہ حکم تھا کہ مجھے سونے نہ دیا جائے، میں دن تک میں یہاں بے سر و سامانی کے عالم میں ہاتھ پاؤں بند قید میں تھا، میرے ہاتھ پاؤں کھانے کے لیے اور نہ ہی کسی دوسرا ضرورت کے لیے کھلتے تھے، اس کے بعد ایرانی تفتیش کار کے ذریعے مجھے ایک چھوٹا سا پیکٹ سائز قرآن مجید ملا تواب میں اس کی تلاوت میں معروف رہتا تھا لیکن شدید سردی تھی اور بعض اوقات تو میں اپنے اوپر اور ہنپی کو بھی سیدھا نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے کہ سردی کے مارے میرے ہاتھ کی انگلیاں شل ہو جاتی تھیں۔

ہاں میں ضعیف ہوں:

ایک دن ٹیک سویرے 24 یا 25 جوئی 2002ء کو آٹھ نو بجے کے قریب تقریباً چھ آدمی میرے کمرے میں لائے گئے جن کے سروں پر تھیلیاں چڑھی ہوئی تھیں اور انہیں کمرے

کے کونے میں بھادیا گیا ان کے ساتھ عربی زبان کے ترجمان بھی تھے اور ترجمانوں کے ذریعے انہیں بار بار کہا جاتا تھا کہ چپ ہو کر پینٹ جاؤ اور بالکل خاموش رہو، با تین بالکل نہ کرنا، ایک دوسرے فوجی دروازے کے پیچے بیٹھ گئے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد آپس میں با تین شروع ہو گئیں اور ان کے بار بار منع کرنے کے باوجود ہماری باتوں میں تیزی آتی رہی اور فوجی بھی خاموش بیٹھے رہے۔

بالآخر عربی ترجمان آیا اور بہت کوشش کے باوجود وہ ہمیں خاموش کرانے میں ناکام رہا ایک عرب بھائی نے مجھ سے پوچھا: ”آپ ضعیف تو نہیں؟“ میں نے کہا ہاں میں ضعیف ہوں پھر ان چھ بھائیوں نے مجھ سے با تین کیس اور تسلی دیتے تھے، انہوں نے مجھ سے اپنا تعارف کروایا ان چھ کے نام یہ ہیں: سالم ستر، سلمان یمنی، شیخ فیض کویتی، شیر الجزاڑی، طارق (جو کہ اصلًا جزاڑ کے تھے لیکن لندن کی پشنڈی تھی) محمد قاسم علبی افغانی۔ ہمیں یہاں کسی سے چھپایا گیا تھا اور تم یہ سمجھ گئے تھے اس لیے ہم بلند آواز سے بولتے تھے کہ یہ ہمارے پیچے دروازے کیوں بند ہے؟ ہم سب کو ایک ساتھ تک جگہ پر کیوں رکھا جا رہا ہے؟ وہ جواباً کہتے تھے کہ دروازہ اس لیے بند رکھا ہے کہ یہاں کچھ لوگ آتے رہتے ہیں اگر انہیں تھہارا پڑتے چل گیا تو تمہیں قتل کر دیں گے لیکن ہم سمجھ گئے تھے کہ یہ بات بالکل جھوٹ ہے بلکہ بات کوئی اور ہے۔ عصر تک یہ لوگ میرے ساتھ رہے پھر ان کو ہاں سے لے جایا گیا۔ میری گرفتاری کے بعد یہ دن میرے لیے سب سے اچھا تھا، صبح پھر یہ لوگ میرے کمرے میں لائے گئے اور میں ایک بار پھر خوش ہوا۔ اس لیے کہ یہ لوگ اور قیدیوں کے ساتھ تھے میں نے ان سے پوچھا کہ گزشتہ دن کیا ماجرا تھا تو انہوں نے کہا کہ اس دن ہالی احرکا نما نئدہ آیا تھا اور وہ قیدیوں سے خطوط وصول کر رہا تھا تاکہ انہیں ان کے عزیز واقارب تک پہنچائے اور ہمیں ان سے چھپانے کے لیے یہاں لا یا گیا تھا اور آج پھر وہ آرہے ہیں اس لیے وہ دوبارہ ہمیں یہاں چھپانے کے لیے لے آئے۔

گواہت اسے کی کہانی ملا ضعیف کی زبانی

ارضِ جہاد کی مقدس مٹی:

عصر کے وقت پھر انہیں یہاں سے نکال کر دوسری جگہ لے جایا گیا اور میں اپنے خراب دیواروں والے کمرے کے اندر اکیلارہ گیا ان دنوں ہمیں بہت زیادہ کھانا ملتا رہا اور یہ چہلی بار تھا کہ میں خوب سیر ہوا۔ اس دفعہ میں نے طیبی صاحب کو بھی پہچانا۔ وodon بعد مجھے نیچے کرے میں لے جایا گیا اور وہاں طیبی صاحب اور سالم ستر بھی موجود تھے، سالم بھائی کا وہ قصہ ابھی تک میرے کافوں میں گونج رہا ہے جو وہ سنار ہاتھا وہ کہہ رہا تھا کہ میری ایک چھوٹی معصوم بھی تھی جو تازہ تازہ بولنا سکھ رہی تھی، جھنچتی تھی کہ (ابی سرد) ابو جی سردی ہے، اور اس کی والدہ روئی رنی اور بدعا سمیں دیتی رہی اس لیے کہ قندھار میں ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ اور پر سے مسلسل بمباء ری چاری تھی میں اور بھی کی والدہ بے بس تھے اور بھی کی بار بار سردی کی شکایت اور رونے پر ہم بھی اس کے ساتھ رورے ہے تھے یہاں سے منتقلی کے وقت کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، قندھار شہر پر ابھی قبضہ نہیں ہوا تھا کہ میں نے اپنے بچوں کو دیگر عرب خواتین کے ہمراہ چن چھپا یا۔ عرب خواتین افغان سر زمین کی مٹی اپنے دوپٹوں کے ساتھ باندھ کر چل رہی تھیں میں نے ان سے افغان مٹی ساتھ لے جانے کی وجہ پر جھنچتی تو انہوں نے بتایا کہ افغانستان شہداء اور غازیوں کا ملک ہے اور ہمیں اس کا دیدار پھر کبھی نصیب نہ ہو گا اس کی کچھ نشانی ہم ساتھ لے کر چلنے ہیں یہ وہ واحد سر زمین ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے احکام نافذ ہوئے لیکن یہ خواتین ان بچوں کے الگے حالات سے بے خبر تھیں کہ پاکستان ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟

دوسری جگہ منتقلی

تمن دن سے ہم تینوں بھائی یہاں ساتھ تھے اور آخری دن ہمیں ایک اور جگہ منتقل کیا گیا رات ہو گئی تھی طیبی صاحب کو تحقیق کے لیے لے گئے اور ہم نے عشاء کی نماز پڑھی اس کے بعد فوجی آئے اور ہمیں نیچے کرے میں لے گئے وہاں دوسرے بھائیوں کے ہاتھ پر باندھتے ہم نے دیکھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہے، تقریباً میں

کے قریب قیدی یہاں موجود تھے، جن کے ہاتھ پاؤں اور سر مضبوط باندھے گئے تھے جو کہ کسی اور جگہ منتقلی کی علامت تھی۔

قدحار منتقلی:

بڑی تیزی کے ساتھ فوجیوں نے میرے ہاتھ پاؤں باندھے اور سر پر وہی کالا تھیلا پہنایا اور پھر میرا سر دوسراے قیدی کے شانے پر نکائے رکھا اور اسی طرح میرے شانے پر ایک اور قیدی کا سر لگایا ایک گھنٹہ تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا اس کے بعد ہم سب کو کھڑا کیا گیا اور اونٹوں کی طرح ایک لائن میں کھڑا کر کے ہمارے ہاتھوں کو ایک پتلی سی تیز دھار رہی سے باندھا گیا۔ فوجی یہ رہی دائیں باسیں کھینچتے تو اور قیدیوں کی جھینیں درد و تکلیف کے مارے آسمان سے باتمیں کرتیں اس لیے کہ رہی ان کے بار بار مختلف مستوں میں کھینچنے سے ہاتھوں کے اندر گھس جاتی تھی اور درد و تکلیف میں احتشام ہوتا رہتا تھا۔ ہماری اس لائن میں ایک قیدی نافع جو کہ سوڈاں کے تھے اور ان کے دونوں پاؤں پہلے سے شدید زخمی تھے، وہ غریب مظلوم بہت چیختا تھا۔

کماٹ روستم کے ہولناک مظالم:

تا جہستان کے محمد یوسف اور یمن کے خوار میرے پڑوں میں قید تھے، ان کو قلعہ جنگی سے زندہ گرفتار کیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی پہنچانی کہ کس طرح وہ گرفتار ہوئے اور روستم کے وحشی فوجیوں کے مظالم کا شکار بنے۔ وہ کہتے تھے کہ روستم اور ان کے ساتھی طالبان ٹوپاہدین کو گولی نہ مارتے بلکہ کھلے میدان میں کھڑا کر کے نگاہ کر دیتے تھے، کافنوں میں لکڑی کے ٹکڑے ٹھوٹس دیتے اور پھر مار مار کر مار دیتے تھے۔ طالبان کو نگاہ کر کے پہلے میدان میں پھرایا جاتا۔ پھر ہاتھ پاؤں باندھ کر کنٹیز میں بند کر دیا جاتا اور تالا لگا کر کنٹیز کے نیچے آگ جلا دی جاتی۔ اس طریقے سے روستم نے پانچ سے آٹھ ہزار تک طالبان کو جان سے مارا۔ محمد یوسف نے بتایا کہ میرے ناخن پلاس کے ذریعے نوچے گئے۔ وہ با قاعدہ پا سپورٹ لے کر افغانستان گیا تھا اور قدوز میں مزدوری کیا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ایک کنٹیز میں 300 طالبان

گواہت نامو بے کی کہانی مثلا ضعیف کی زبانی

کوٹھونس ٹھوںس کر بند کیا جاتا، کنیٹز کے باہر جو آوازیں سنائی دیتیں تو لگتا کہ وہ خت تکلیف میں مبتلا ہیں۔ ان میں سے کوئی کہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرہے ہیں، کوئی کہتا ہم جنت جا رہے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ مجھے بھی تین دن تک کنیٹز میں بند رکھا گیا۔ تین دن بعد جب کنیٹز کھولا گیا تو اس میں صرف چند افراد ہی زندہ پچے تھے جن میں سے ایک میں بھی تھا۔

جھوٹ معلوم کرنے کی مشین:

ایک بار مجھے تقیش کے لیے لے جا کر کرے میں سفید کری پر بھایا گیا اور خلاف معقول ہاتھ پاؤں کھولے گئے۔ ایک چمکیلی آنکھوں والے چالاک امریکی نے ایک سفید ریش فارسی بولنے والے ترجمان کے ذریعے بتایا کہ یہ مشین جھوٹ معلوم کرتی ہے اس کو سماڑھے تین سال عذاب سے دو چار رکھا۔ اگر یہ مشین پہلے استعمال ہو جاتی تو آپ کو یہ جھوٹ کا پتہ چل جاتا۔ اس نے پہلا سوال پوچھا:

آپ کو کون بہتر جانتا ہے؟

میں نے جواب دیا کہ میرا خالق۔

پھر پوچھا اس کے بعد؟

میں نے کہا کوئی دوسرا میرے دل کا حال نہیں جانتا۔

اس نے کہا کہ میں جان گیا ہوں۔ مشین ایسی تھی کہ دل کی دھڑکنوں اور فشارخون کے ذریعے سکرین پر گراف کی طرز پر کچھ دکھاتی اور جب کوئی جھوٹ بولتا تھا تو ظاہر ہے کہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی، پھر یہ امریکی اس پر شک کرتے۔ جب میں نے کہا کہ مجھے کوئی اور نہیں صرف میرا خدا بہتر جانتا ہے تو وہ کہتا کہ ہم خدا سے بہتر تھیں جانتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کہیں خدائی کا دعویٰ نہ کر بیٹھو۔ اس نے پوچھا کہ کبھی خدا کی نافرمانی کی ہے یا نہیں؟

میں نے کہاں کی ہے۔

اس مشین کے سامنے کوئی حوصلے سے بات کرتا تو کامیاب ہو جاتا۔ کوئی گھبرا کرچ بھی بولتا تو امریکی سکرین دیکھ کر اس پر شک کرتے۔

عرب بھائی کو ذبح کر دیا گیا:

فوچی برادر دھمکاتے رہتے تھے اور جھیں نکالنے سے منع کرتے تھے لیکن زیادہ بختی اور عذاب کی وجہ سے جھیں نہیں رکتی تھیں ہمارے ساتھ لا ان میں ایک بھائی امین اللہ کے نام سے بھی تھے جو ”توبی“ کے رہنے والے تھے اور اس وقت جس میں رہ رہے تھے نے مجھے بعد میں قدمدار میں تباہ کر دیا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمیں ذبح کرنے کے لئے لے جایا جا رہا ہے اور خصوصاً اس وقت تو مجھے بالکل ذبح ہونے کا یقین ہو گیا کہ جب ایک زخمی عرب بھائی کی آوازیں اور خراٹے بلند ہونے لگے اور یوں لگ رہا تھا کہ اس کو ذبح کیا جا رہا ہے اور یہ آوازیں ذبح ہونے کے وقت کی ہیں، امین اللہ بھائی کہہ رہے تھے کہ شدید درد کی وجہ سے عرب بھائی کی یہ اٹھتی ہوئی بلند آوازیں سن کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ عرب بھائی کو ذبح کر دیا گیا اور اب ہماری باری کا ہے۔ میں نے کلمہ شہادت کا ورثشروع کر دیا تھا، میں نے بھی کوئی بھائیوں سے سنا کہ وہ کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں اور تسلی پر منی قرآنی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمیں ایک بخرو ویران زمین پر چلا یا جا رہا تھا اور کبھی کبھی تو ہم گزھوں میں گر جاتے تھے۔ یوں رفتہ رفتہ ہم ایک آواز کے قریب ہوتے رہے اور قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہاں ایک بڑا ہیلی کا پڑکھڑا ہے اور ہیلی کا پڑکھڑ کے زیادہ شور کی وجہ سے میں دوسرا بھائیوں کی تیج و پیکار کو بھی نہیں سن سکتا تھا۔

یہاں پہنچ کر ہمیں ایک دوسرے کے اوپر یوں پہنچنا گیا جس طرح یہاں گھر منتظر کر کے سامان ایک دوسرے پر پہنچنا چاہا ہواں کے بعد ہمیں ہیلی کا پڑکھڑ کے اندر ایک ایک کر کے پڑھایا گیا اور وہاں پر موجود ایک نئے سے باندھا گیا ایک پسہ ہمارے سینے اور سر پر بھی کھینچا

گواہت اسے کی کہانی مغلائی ضعف کی زبانی

گیا اور بڑا سخت درود ناک عالم تھا۔ ہم چیختے رہے اور اس کا جواب امریکی وحشی فوجی بلوں اور گھونسوں سے دیتے لیکن پھر بھی منزل قریب تھی اور تقریباً ایک گھنٹے بعد ہیلی کا پڑا تر گیا۔ لوگ آگے کو زور لگا رہے تھے لیکن کمر کے درد کی وجہ سے شدید تکلیف میں رہتے۔

ہم سے فٹ بال کھیلتے تھے:

8 یا 9 فروری 2002ء کو ہیلی کا پڑا تر اور ہم میں سے ایک ایک کو نکالنا شروع کر دیا جب میری باری آئی تو مجھے باہر کی طرف کھینچا گیا میرے کپڑے پھٹ گئے، اور مجھے ایک گندے پانی سے آلودہ کچھ کے گڑھے میں پھینکا گیا جہاں شدید سردی تھی، اسی طرح دوسرے بھائیوں کو بھی یہاں پھینکا گیا تھا اور یہاں بہت شدید سردی تھی، امریکی وحشی فوجی کبھی تو ہمیں لا توں اور گھونسوں سے بے دردی کے ساتھ مارتے اور کبھی ہم سے فٹ بال کھیلتے اور کبھی ہمارے اوپر پیٹھ کر گاتے تھے اس حال میں کہ ہم سب کے ہاتھ پر برستوں سے بندھے ہوئے تھے اور ہمارے سروں پر کالے تھیلے پہنائے گئے تھے اور دم گھنٹے کی وجہ سے ہمیں کبھی شدید سردی کم عحسوں ہوتی تھی، مجھے ہیلی کا پڑے نکالتے وقت ان امریکیوں نے گنوں کے بٹ پسلیوں اور رانوں پر کئی طریقے سے مارے۔ چار پانچ امریکی فوجی اس کے علاوہ میرے اوپر بیک وقت میٹھے ہوتے تھے، ہمارے کپڑوں کو چاقوؤں کے ذریعے چاڑ دیا گیا تھا اور ہمارے سروں اور نانگوں کو وہ وحشی اتنا روند تھے کہ مجھے بھی یقین ہو گیا کہ اب ہمیں یہ وحشی لوگ ذبح کریں گے اور حقیقت تو یہ تھی کہ اتنے شدید اور سخت عذاب کے پڑ لے ہم لوگ ذبح ہونے کو ترجیح دیتے تھے، اس لیے کہ کوئی بھی انسان اتنی وحشت ناک ذات اور طرح طرح کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد مجھے بھا اٹھایا گیا اور اتنا مجھے رومندا کہ اتنا شیر بھی مینڈھے کو شکار کر کے نہیں روند سکتا۔

برہمن تصویریں لی جا رہی تھیں:

تحقیق شروع ہوئی ہر طرف کیسے آن تھے اور برہمن انسانی قیدیوں کی تصاویری لی جا

رہی تھیں۔ ہر طرف سے کیروں کی لائیں لگ رہی تھیں۔ ننگے قیدیوں کی تصویر کشی اور ان سے تحقیقات امریکیوں کے لیے بڑا تاثرا تھا، میرے سر سے اچانک تھیلا اٹھایا گیا، اف اللہ! کیا وحشت تاک مظفر تھا کہ ہم تمام بھائیوں کو ننگا کر کے عذاب دیا جا رہا تھا۔ کوئی کہاں پڑا ہوا، کوئی کہاں رو ندا ہوا، الٹانگا پڑا ہوا تھا..... اتنا وحشت تاک اور تو ہیں آمیز مظفر تھا کہ جسے بھاں میری زبان تبیر کرنے سے عاجز ہے، ننگے مسلمان انسانوں کا (ادر پدر آزاد امریکی فوجی) مرد اور عورتیں تماشہ کیجود ہے تھے۔

ایک میڑاونچا کمرہ:

ایک بڑا خیر تھا جس میں ڈاکٹر موجود تھے، تصویر کشی اور تحقیق کا مرحلہ ختم ہوا تو ڈاکٹروں نے طبی معافانہ کرنا تھا۔ اس کے بعد مجھے دوبارہ یونیفارم پہنایا گیا اور کھینچتے بھگاتے مجھے ایک جگلے گئے اور وہاں پر الٹامنہ کے مل پھینکا میرے ہاتھ اور پیر کھول دیئے اور تھیلا میرے سر سے ہٹادیا گیا، فوجی میرے سر اور پاؤں پر بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بعد مجھے اٹھنے کا حکم دیا اور میں گرد و غبار میں لپٹا ہوا تھا تو دیکھا کہ ایک بڑا کمرہ تھا جس کی چاروں دیواریں لکڑی کی بنی ہوئی تھیں اور زمین سے تقریباً ایک میڑاونچا پر کمرہ مستطیل تھا اور دو میڑ کے فاصلے پر خاردار تار سے اسے ڈھانپا گیا تھا اس میں تقریباً میں آدمیوں کی گنجائش تھی اور اس کی چھت پر ترپال بچھا ہوا تھا، آنکھیں خوب کھولنے کے بعد میں نے دیکھا کہ بھاں پر اس طرح کے کئی کمرے ہیں جو دیگر قیدی بھائیوں سے بھرے ہوئے تھے، ڈیوٹی پر مامور فوجی نے مجھے اشارہ سے وہ سامان بتایا جو کمرے کے اندر ہر قیدی کے لیے ہوتا تھا۔

اس میں ایک چادر، دو ہلکے کمزور بستر، ایک پامچا مس، ایک جوڑا جراب، ایک جوڑا بوت اور ایک کیپ۔ میں نے جراب اور پامچا مس پہن لیا اور دونوں بستروں کے اندر لپٹ گیا اس لیے کہ شدید سردی تھی اور مجھ سے پچھے رہنے والے بھائیوں کو بھی اسی طرح مراحل سے گزار کر بھاں لا یا گیا، تقریباً صبح سے ایک گھنٹہ قبل مسلم صادق کو بھی بھاں لا یا گیا وہ صوبہ

ارزگان کے بلاح گاؤں کا باشندہ تھا اور اس وقت چن میں رہ رہا تھا، سابقہ سوویت یونین جہاد میں وہ جہادی کمانڈر اور اس وقت ہمارا امیر تھا اس وقت اس کو شدید سردی لگ رہی تھی اور وہ کانپ رہا تھا۔ میں نے اس کو کپڑے تیار کر کے دیے اور پہننے میں مدد دینا چاہی تو اس نے منع کیا اور کہا کہ آپ مجھے مت دیکھیں میں خود تبدیل کرلوں گا۔

اذان کی آواز بلند ہوئی:

اس نے آس پاس سوئے ہوئے قیدی دیکھے جو بستوں میں لیٹئے ہوئے تھے اور انہائی پریشان ہوئے اور حیران ہو کر مجھ سے کہا کہ کتنی لاشیں پڑی ہیں وہ ان سوئے ہوئے قیدیوں کو مردہ بکھر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ نہیں یہ تو سوئے ہوئے ہیں تھوڑی دیر بعد کمروں سے بآواز بلند اذانیں شروع ہوئیں، ملا صادق بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ابھی تو ہم دارالاسلام میں آگئے ہیں۔ لیکن امام اللہ بھائی نے یہاں پر کہا کہ یہ کیسی وحشی زندگی ہے کاش کہ ہم مر جائے ہوتے، اس لیے کہ یہ وحشت تو کبھی بھولنے کے قابل نہیں۔ سراسر انسانیت کی ذلت اور رسوائی ہے لیکن میں ساتھیوں سے کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی بدتر ذلت اور رسوائی سے بچائے۔

قدھار میں تحقیق کا مرحلہ:

صحیح ہوئی اور ہم نے نماز پڑھی اس کے بعد ہم نے آرام کرنا چاہا لیکن آرام کے لیے ہمیں نہیں چھوڑا گیا اور تحقیق کا مرحلہ شروع ہوا، پہلے عرب بھائیوں کو لے جایا گیا۔ اگرچہ مجھے اس تحقیق کے لیے نہ لے جایا گیا تحقیق کا طریقہ کار بروائخت اور تحریر آمیز ہوا کرتا تھا۔ کمرے کے ایک طرف قیدیوں کو گھنٹوں کے مل کھرا کر کے بڑی ذلت سے فوجی انہیں کمرے سے باہر کھینچتے تھے اور دوسری جگہ منتقل کرتے تھے جہاں ان سے تحقیق ہوتی تھی اور متصرف فوجی بڑی سختی سے پیش آتے تھے، قیدیوں کے سروں کو تھیلے سے ڈھانپا جاتا تھا اور

زمین پر انہیں بے دردی کے ساتھ گھسیٹا جاتا تھا، کئی مرتبہ میرے گھنٹوں کا گوشش زمین پر
کھنچنے کی وجہ سے زمین پر رہ جاتا تھا۔ کبھی ہمارے سرول کو دیواروں سے لکرایا جاتا تھا جبکہ
ہماری حالت یہ ہوتی تھی کہ آنکھیں بند ہونے کی وجہ سے ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔

تو ہیں آمیز مراعات:

صحیح کو ہلال احر کے نمائندے ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہماری بائیو گرافی یا
شناخت اپنے پاس رجسٹر میں لکھی۔ ہمیں خط و کتابت کے لیے سفید فارم دیے گئے، ہم بڑی
احتیاط اور تکمیل کی نگاہ سے ان سے باتمیں کرتے تھے اس لیے کہ ہمیں کافی ذرخوا کہ شاید یہ بھی
امر کی ایجنسی کے لوگ ہیں وہ لوگ ہماری حالت دریافت کرتے تھے۔ وہ ہلال احر کے لوگ
اوچھے تھے، گھروالوں کے ساتھ خلطوں کے ذریعے رابط میں بڑا کردار ادا کرتے تھے اور ہمارے
ساتھ طرح طرح کے وعدے کرتے تھے کہ وہ امریکیوں سے تمہارے لیے مراعات منظور
کرائیں گے اور اس کے لیے انہوں نے ہمیں مطلوب اشیاء کے کارڈ بھی جاری کیے جس میں
روشنی، دوائی، پانی، کتابیں اور زمزگی کی دیکھرا ہم ضروریات درج تھیں۔ جب تک میں قندھار
میں تھا آخر میں انہوں نے چند کہانیوں کی کتابیں، بطریق اور تین مہینے میں ایک مرتبہ سب کے
سامنے بنا گھسل کرنے کی تو ہیں آمیز مراعات دیں۔ ہم بہت ہی زیادہ نہ ہی کتابوں، پانی اور
انسانی حقوق کی پاسداری چاہتے تھے لیکن ہماری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوئی۔

چھ ماہ تک ہاتھ منہ دھونے نہیں دیا گیا:

وہ فروری 2002ء سے جولائی کی ابتداء تک میں قندھار میں تھا۔ اس عرصہ میں مجھے
ہاتھ منہ دھونے نہیں دیا گیا اور اگر کبھی دھونے کی ہم کوشش بھی کرتے تو امر کی سخت سزا دیتے
تھے اس وجہ سے ڈر کے مارے ہم ہاتھ منہ نہیں دھوتے تھے، ایک مرتبہ ہمیں سات سات
قیدیوں کو بامدھا گیا اور اس جگہ سے چند میٹر کے فاصلے پر بالکل بنا کرنے کے کھڑا کیا گیا اور
امر کی مردا اور خواتین ہمارے آگے پیچھے کھڑے ہوئے اور ہمیں تو ہیں آمیز گھسل کرنے کے

لیے ایک عدد صابن اور ایک کوزہ پانی دیا گیا، بڑا عجیب خوفناک منظر تھا ہم سب نیکے تھے میں نے ساتھیوں سے بگاؤ از بلند کہا کہ بھائیو! ہم اس پر مکلف نہیں ہیں اس لیے آپ لوگ غسل کریں اور آنکھیں یا تو بند رکھیں یا پھر تیچے رکھیں اور ایک دوسرے کو نہ دیکھیں لیکن یہ کہاں تک ہو سکتا تھا یہ پہلا غسل تھا جو قدر حار کے ایئر پورٹ پر ہیں ایک دوسرے کے سامنے نگاہ کھڑا کر کے کرایا گیا۔ اس کے بعد اور پہلے نتوہ ہم نے ہاتھ دھونے اور نہ ہی چہرے پر پانی مارا۔

تحقیق کا دوسرا مرحلہ:

دوسرے دن دوبارہ تحقیق کے لیے مجھے لے جایا گیا اور میری بائیو گرانی یعنی شناخت لی گئی۔ اس پار تحقیق کا طریقہ کار بالکل مختلف ہو گیا تھا اور تفتیش کاروں کا رو یہ زم اور دھمکی و تشدید سے خالی تھا لیکن ان کی باقی گزشتہ کل کی ہاتوں سے مختلف نہ تھیں، تفتیش کار میم کے پیچے دروازے کے قریب تر جان اور دروازے کے پیچے مسلح سیکورٹی کے الہاکار کھڑے تھے۔ ملا عمر اور اسامہ کے متعلق پوچھتے رہے اور میز پر پڑے سرخ رنگ کے کاغذات پر لکھتے رہے سرخ رنگ کے کاغذ پر نوٹ کرنا میری سمجھیں نہیں آیا، معمول کے مطابق کارروائی پہلے سرخ کا گذ پھر پہلے کاغذ اور آخری مرتبہ سفید کاغذ پر قلمبند کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد فوجیوں نے میرا سرڈھاتا اور پرانی جگہ واپس لے گئے تفتیش کے لیے لانے اور لے جانے کا یہ اذیت تاک سلسلہ کافی دنوں تک جاری رہا۔

آدمی رات کو چھاپے:

تند حار کا قید خانہ نبنتا آسان تھا اور سختی زیادہ نہ تھی مثلاً ہر خیسے میں میں قیدیوں کی سجنیاں ہوا کرتی تھی اور ہم دس سے بیس افراد تک ایک ایک خیسے میں رہتے تھے۔ سردی کا موسم تھا، دھوپ میں بیٹھنے کی اجازت ہوتی تھی اور آپس میں باقی میں بھی کر سکتے تھے، نماز باجماعت پڑھتے تھے اور اس کی بھاں امداد تھی اور آپس میں آدمیوں سے زیادہ کوبات چیت کے لیے آزادیں چھوڑتے تھے۔ ہم تین قیدی بیٹھ کر باقی کر سکتے تھے اور جب تین سے زیادہ ایک

جگہ جمع ہو جاتے تھے تو سخت سزادیتے تھے البتہ یہاں بھی روزانہ آدمی رات کو اچاک امریکی فوجی کتوں سمیت چھاپے مارتے تھے اور جیل میں موجود قفر یا چھوس (600) قیدیوں کو سخت تکلیف سے دوچار کرتے تھے، گدھوں کی طرح چینختے تھے اور قیدیوں کو اٹالا کر کتوں کو اوپر چھوڑتے تھے اور یہاں یہ روز کا معمول تھا ہر رات کو نیند خراب کر دی جاتی تھی۔

قدحار میں روئی کا نظام:

یہاں کھانے کا فوجی نظام ہوا کرتا تھا۔ دوسری جگہ عظیم کے بعد امریکا نے فوجیوں کے لیے ایر جنسی اور مشکل حالات میں کھانوں کے مختلف ڈبے پیک کیے ہوئے تھے اور وہ اکثر اس وقت ایکسپریز (زاند المیعاد) ہو چکے ہوتے تھے۔ اس میں بزری اور خنزیر کا گوشت بھی ہوا کرتا تھا بہت سے بھائی تو انکش نہیں سمجھتے تھے اس وجہ سے وہ کھایتے تھے، انہائی گندی خوارک تھی جوں کے میئنے میں اس خوراک کی نوعیت بدل گئی اور اس کے پیک ڈبوں پر کوثر (Kosher) لکھا ہوتا تھا جو مسلمانوں کے لیے یہودیوں کا ذرع ہوا کرتا ہے اور مسلمان اسے کھاتے بھی ہیں یا پھر اس پر حلال لکھا ہوتا تھا وہ تو خالص مسلمانوں کا ذرع ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک افغانی روئی کا بھی اضافہ کیا گیا جس سے خوب سیر ہوتے تھے۔

کھانا تقسیم کرنے کا طریقہ کار:

کھانے کے وقت خیسے کے سامنے تعداد کے مناسب پیکٹ رکھے جاتے تھے پھر ایک فوجی قیدیوں کی لائیں بنا کر ایک پیکٹ خوراک اور ایک بوتل پانی دیتا تھا۔ کھانا کھانے کا دورانیہ 30 منٹ کا ہوتا تھا زائد وقت لینے پر سزا ملتی تھی، ایک ٹوٹھ پھر اور دو بالٹی پانی میں قیدیوں کو دیتے اور خالی بالٹی دن میں تین مرتبہ ہر قیدی سے بھرو اکٹیگی میں ڈالا جاتا تھا اور وہ ٹیکنی پھر پاتھر دوم کے لیے استعمال ہوتی۔

ہر بیماری کے لیے ایک ہی گولی:

بہت سے ساقی بیمار ہو گئے تھے اور علاج کے لیے ڈاکٹروں کی بجائے خواتین نریں آتی

تھیں جن کے ساتھ صرف تھر میسر ہوتا تھا یہ نہ سیں علاج کے طریقے سے ناواقف تھیں ہر شخص کو ہر بیماری کے لیے ایک طرح کی دوائیں دیتی تھیں۔ قبض، بزلہ اور بخار کی بیماری بہت زیادہ تھی اور علاج کے لیے پانی کے کثرتِ استعمال کے لیے کہا جاتا تھا، یہ قید خانہ ہوا تھی اسے پورٹ کے قریب تھا اور قدحار میں عموماً گرد و غبار حد سے زیادہ ہوتا ہے خصوصاً جب ہوا جلت تو ہمارا سارا کھانا مٹی بن جاتا تھا، بڑے بڑے ہیلی کا پیڑز کی لینڈنگ ہر وقت رہتی تھی اور خصوصاً راتوں کو تو ہیلی کا پیڑوں کے شور کی وجہ سے نیز خراب ہو جاتی تھی اور پھر پورے دن سر میں درد رہتا تھا، فوجی بہت چیختے تھے اور راتوں کو ہمیں انکریاں مار مار کر سونے نہیں دیتے تھے اور باقوں کی بجائے ہمیشہ گالی دیتے تھے اور اکثر یہ گالی بہت دیتے تھے (Fuck You) جو اخلاقاً بڑی گالی ہے، دن رات قیدیوں کی تین مرتبہ نمبر وار حافظی پھر بعد میں دو مرتبہ ہوتی ہے اور ہر ایک قیدی کو نام کی بجائے نمبر کے ذریعے پکارا جاتا تھا میر انبر 306 تھا۔ وہ 306 بول کر میری حاضری لیتے تھے اور میری رہائی تک میرا یہی 306 نمبر تھا۔

دو ہوش رُباقے:

دو عجیب و غریب قصے ابھی تک میرے دل میں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان کا ذکر بھی ضرور ہو وہ یہ کہ گفتگی کرنے والوں کی اپنی شرائط تھیں۔ چند دنوں بعد حاضری لینے والا بدلتا رہتا اور دن رات کا حاضری لینے والا بھی الگ الگ ہوتا تھا، ایک مرتبہ حاضری لینے والا فوجی آپا اور ترجمان کے ذریعے حکم دیا کہ جب بھی میں یہاں قریب ظاہر ہوں تو تم سب نے کھڑا ہونا ہے اور لائن میں کھڑا ہونا ہے اور مجھے سلامی دینی ہے تم لوگوں کو خاموشی سے نظر میں جھکا کر حاضری دینی ہو گی اور جب میں حاضری بولوں گا تو تم نے (Welcome) بول کر مجھے اپنا نمبر شمار بتانا ہو گا اور اس کے بعد پیچھے جا کر کھڑا ہونا ہو گا اور جب تک میں حکم نہیں دوں گا وہیں کھڑے رہو گے، خلاف ورزی پر مجھے غصہ آئے گا اور دنیا میں مجھ سے کوئی بدر نہ ہو گا، میں یہ سوچتا رہا کہ اتنے کم مرتبہ فوجی کی کیا ہمت جس نے کوئی فوکری نہ ملے پر

فوہجی کا راستہ اختیار کیا کہ وہ ہزاروں مسلمانوں کی توہین کر رہا ہے اور قیدیوں کے ساتھ تمام عالمی قوانین کو روکر رہا ہے۔ ان امریکیوں کا ہر کم تر کم ریشم والا فوجی بھی غرور و تکبر اور ظلم و جرما کا حشی کا رینہ ہے، لیکن غیرت مند ایسا نہ اسلام قیدیوں نے ان کی یہ خواہش بھی پوری نہ کی اور ہر طرح کی سزا میں برداشت کرتے رہے۔

دوسری قصہ (کالا فرعون):

دوپہر کے وقت حاضری لینے والا ایک کالا گلوٹا بندر کی ٹھکل کا فوجی جو کئی دنوں تک مسلسل حاضری لیتا رہا تھا دوپہر کے وقت شدید گرمی میں ساتھی قیدیوں کو آدھا گھنٹہ حاضری لینے سے پہلے شدید لواور دھوپ میں کھڑا کیے رکھتا تھا اور اللہ کی پناہ اتنے غرور و تکبر سے لائیں سیدھی کرنے چلتا تھا کہ میں نے آج تک ایسا کالا فرعون نہیں دیکھا (اللہ تعالیٰ اس کو جہنم واصل کرے۔ آئین ثم آئین) یہ بخت ہر روز ہمیں دو گھنٹے شدید لواور دھوپ میں کھڑا کیے رکھتا تھا۔ یہ قصہ میں اس لیے نہیں بھلا سکتا کہ انسانی حقوق کے ملکیکدار جو ایک شیر سے مٹی دل تک کے لیے قانون رکھتے اور اس کا پرچار کرتے ہیں مگر ہم بے گناہ مسلمانوں کے لیے ان کے ہاں قانون نام کی کوئی چیز کیوں نہیں ہے؟؟؟

ایک دن اس بد بخت فوجی نے میرے ہاتھوں میں ششے کا ایک چھوٹا سا مکڑا دیکھا اور فوراً مجھ پر ٹوٹ پڑا کہ یہ کیا ہے؟ فوراً مجھے دو۔ میں نے ششے کا یہ باریک ذرہ اس کی پھیلک دیا تو اس نے مجھ سے پوچھا یہ کہاں سے لائے ہو؟ میں نے لاعلی ظاہر کی اور کہا کہ نہ میرا سامان اپنا ہے نہ خود یہاں آیا ہوں اور یہ تو ویران ہنڈر ہے اور یہ مجھے نہیں سے طا ہے اور یہاں تو سب کچھ ملتا ہے اس لیے کہ ویرا نہیں ہے لیکن وہ جیختا رہا اور کہتا رہا:

(Tan't Tak I will Fuck you)

پھر صلیب کی طرح مجھے گھنٹوں کے مل کھڑا کیا گیا اور کئی گھنٹوں تک سزا دیتا رہا وہ قیدیوں پر چکر لگاتا رہتا تھا اور میرے پاس پہنچ کر گالی دینا شروع کر دیتا تھا میں پوچھتا کہ

کیوں گالیاں دیتے ہو تو وہ مزید گالیاں بکنا شروع کر دیتا تھا۔ فوجیوں کو جواب دینا جرم تھا ان کے لیے کوئی قانون نہیں تھا اور ہم بے بس تھے اس لیے کہ کچھ کہنے پر وہ سخت سزا دیتے تھے میں یہ لوگوں کی بھائیوں بھلا کتا کہ ایک حرای فوجی غلام کے ہاتھ میں مظلوم مسلمان مومن بھائیوں کو اپنے ہی مسلمان بھائیوں نے کیسے اپنادین اور ایمان نجی دیا ہے؟

”اللہ ارحم علینا و اصلاح امراءنا۔“

(یا اللہ! ہمارے حال پر حرم فرماؤ رہارے حکمرانوں کی اصلاح فرمَا)

بے خوابی کی سزا:

یہ مرلح قید خانہ جہازوں کا پرانا درکشاف تھا اور اس میں چھوٹی چھوٹی جگہیں تھیں اور جب بھی کسی کو سزا دیتے تھے اسکی چھوٹی چھوٹی جگہوں میں اسے اندر لے جاتے اور سزا دیتے تھے اس قید خانے کی چھ منزیلیں تھیں جو کہ لکڑی کی بنی ہوئی تھیں، یہاں چھوٹیں گھنٹے فوجی ہوتے تھے اور ان کے ساتھ کتے پوری رات بھوکلتے تھے اور یہ فوجی خود بھی ان کے ساتھ چلاتے تھے تاکہ ہمیں سونے نہ دیا جائے اور ہماری بینہ خراب ہو۔ یہاں بے خوابی کی سزا دی جاتی تھی اور یہاں پر میں نے سینکڑوں قیدیوں کو ٹھکڑیوں میں بند شدید تکلیف میں دیکھا۔

105 سالہ بوڑھا قیدی:

ایک مرتبہ اچانک ہمارے کمرے میں ایک انتہائی سفید ریش بابا قیدی کو کھینچتے ہوئے لایا گیا وہ بے ہوش تھا اور ضعیف عہد کی وجہ سے شدید تکلیف میں تھا جب ہوش میں آیا تو اس کو تفتیش کاروں نے اٹالاٹا چاہا لیکن انہیں طریقہ نہیں آتا تھا اور ہم بھی اس کی مدد نہیں کر سکتے تھے بالآخر فوجوں نے ان کو اٹالاٹایا اور ان کے ہاتھ پاؤں پاندھ کر اس کے اوپر بیٹھ گئے اور اس کا سرز میں پرداستے رہے۔ بابا سمجھا کہ شاید مجھے ذرع کیا جا رہا ہے وہ زور زور سے چینخ رہے اور کہتے رہے کہ طالمو! مجھے دو منٹ کے لیے تو چھوڑ دوتا کر میں دوز کعت نفل کی نمازو تو پڑھ لوں۔ میں نے بابا سے کہا کہ بابا پریشان نہ ہو آپ کو ذرع نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ آپ کو

تحقیق کے لیے لے کر جائیں گے فوجیوں کو بابا کی زبان سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور اس کو یہ بھی پڑھنیں تھا پہلے سے موجود قیدی کون ہیں؟ بعد میں جب میں نے بابا سے پوچھا تو وہ ضلع چار چینو صوبہ ارزگان کا رہنے والا تھا اور ان کی عمر 105 سال تھی یہ بابا کیوں بابا کی دوزخ نما جیل سے رہائی پانے والا پہلا قیدی تھا۔

امریکی فوجی دوران نماز سرپر بیٹھ گیا:

ایک دن ہم صبح سویرے نماز کی تیاری میں مصروف تھے وضو کی زحمت سے تو ہم پہلے سے ہی بری تھے اس لیے کہ پانی نہ دینے کی وجہ سے نماز کے لیے تیم کیا کرتے تھے میں امامت کرنے کے لیے آگے بڑھا اور جماعت کھڑی ہو گئی تو بابر سے فوجی ہم میں سے ایک عرب قیدی بھائی جن کا نام عادل تھا اور تیونس کا رہنے والا تھا، کو پکارتے رہے بار بار آواز لگانے کے باوجود عادل نہ جا سکا اس لیے کہ نماز میں مصروف تھا لیکن جب میں بج دے میں گیا تو فوجی آکر میرے سر پر بیٹھ گیا اور دوسرے عادل کو دوران نماز ہی کھینچتے ہوئے تھیں ہوئے تھیں کے لے گئے اور بعد میں ہم نے نماز دوبارہ پڑھی۔ عالمی قوانین میں تمام نماہب کا احترام موجود ہے اور خصوصاً عبادت کے وقت تو بالکل کسی کو کچھ کہنے کی عالمی قوانین میں بھی اجازت نہیں لیکن امریکا عالمی قوانین کو روندتے ہوئے عبادت بھی سکون سے نہیں کرنے دیتا۔ یہ ہے امریکیوں کی وحشت اور مسلمانوں پر ظلم۔

ایک پاکستانی پر تشدد:

تین خیسے قریب قریب تھے میرے قریب کے خیسے میں ایک پاکستانی بھائی بھی تھا جس کے دانت میں شدید درد تھا اور اس اسے صرف (Talinol) گولی دیتی تھی جو وہ ہر مریض کو دیتی تھیں، بیچارا بہت چینا لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا اسی اثناء میں بند رہنا سرخ رنگ والا ایک چھوٹے قد کا فوجی روٹی تقسیم کرنے آیا تو پاکستانی بھائی کو دریہ ہو گئی اس لیے کہ وہ کھا نہیں سکتا تھا اور کھانے کا وقت 30 منٹ ختم ہو گئے تو اس نے فوجی سے مزید کھانے کا وقت

مانگا، بخت فوجی نے اس کو دروازے کے پاس بلایا اور وہاں اس کو ایک ساتھ سے پکڑ کر منہ پر زور زور سے مارتا رہا اور اس کو شدید زخمی کیا۔ دوسرا دن جب کھانا آیا تو ہم نے کھانا لینے اور کھانے سے انکار کر دیا یہ بات آگے کی طرح پوری جیل میں پھیل گئی اور جیل کا سپر ڈنٹ فوراً ہمارے پاس آیا کہ تم لوگ کھانا کیوں نہیں لیتے ہو؟ ہم نے گزشتہ واقعہ اس کو سنایا تو اس نے یقین دہانی کروائی کہ آئندہ ایسا نہیں ہو گا پھر ہم نے کھانا لے لیا۔

ایک دن جب یہی بد بخت بند رہا فوجی آیا تو اس نے محمد نواب جو کہ سعودی شہری تھا اور بہت شدید بیمار تھا کی شدید پناہی کی یہ بخت فوجی ہمارے ساتھ پہلے سے تعصباً رکھتا تھا اور ہم کسی کو نہیں بتا سکتے تھے اور یہی وہ بے غیرت فوجی تھا جس نے قرآن کی بے حرمتی کی جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

قرآن مجید کی بے حرمتی پر مسلمانوں کا غمزدہ ہونا:

ایک دن میں سویا ہوا تھا کہ اچانک رونے کی آوازیں اتنی زور اور کثرت سے میں نے سینیں کہ میں جاگ گیا دیکھا کہ سارے قیدی تمام خیموں میں زور زور سے رو رہے تھے جبکہ اس سے پہلے وہ تلاوت اور ذکر درواز کار میں مصروف ہوتے تھے۔ میں نے تمام ساتھیوں کو ایسا غمزدہ پریشان اور زار و قطار روتے دیکھا کہ اس سے پہلے میں نے کسی کو اس حال میں نہیں دیکھا میں نے رو نے کی وجہ پوچھی تو سعودی عرب کے رہنے والے محمد نواب نے مجھے اس مولے کا فرنوچی کی نشاندہی کی (جس نے پاکستانی بھائی کو منہ پر مارا تھا اور ہم نے اس پر احتجاج کیا تھا) اور کہا کہ اس نے قرآن مجید پر پیشاب کر کے اسے رو دی کی تو کری میں پھینک دیا ہے۔ ظاہر ہے اس طرح قرآن مجید کی بے حرمتی ایک عام مسلمان کے لیے بھی قابل برداشت نہیں۔ یہ ایسا واقعہ تھا کہ جو سب سے زیادہ دردناک اور اذیت ناک تھا۔

قرآن مجید واپس لے لو!

اس کے بعد ہم نے ہلال احر کے کارندوں سے کہا کہ جیل میں موجود تمام قیدیوں سے

قرآن مجید واپس لے لیے جائیں، اس لیے کہ ہم اس کی حنفیت نہیں کر سکتے اور اس کی بے حرمتی ہمارے لیے قطعاً ناقابل برداشت ہے، لیکن ہلال احر نے یہ کام نہیں کیا پڑھنے نہیں امریکیوں نے انہیں منع کیا؟ یا پھر کیوں انہوں نے ایسا نہیں کیا؟ لیکن امریکیوں نے ہمیں اطمینان دلایا کہ آئندہ قرآن مجید کے ساتھ اس طرح نہیں ہو گا اور اس حرای فوجی کو سزا دی جائے گی لیکن افسوس کہ وہ حرای فوجی اُبی قید خانہ میں گھومتا پھرتا تھا اور اُسی طرح دل آزاری اور توپین آمیز سلوک کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس جیسے تمام لوگوں سے جہنم کو بھردے (آمین) قرآن کی بے حرمتی کا یہ واقعہ ایک مقامی امریکی رسالے نے بھی شائع کیا۔

امریکی فوجیوں کی "بہادری" کی ویڈیو فلم:

ایک رات جب ہم نے کھانا کھایا تو اچاک ہیلی کا پھر کی آواز آئی اور پھر کیا دیکھا کہ فوجیوں کا ایک بہت بڑا لشکر خیموں کے اندر آیا اور ایک فوجی گاڑی جس کے اوپر مسودی کیسٹر نے نصب تھے ہمارے درمیان آ کر رک گئی اور اس کے بعد ہمیں الممالک نے کا حکم دیا گیا اور ڈٹروں اور ڈھالوں سے مسلح ایک بڑا فوجی دستہ اچاک داخل ہوا اور ہمیں ایک جگہ سے اٹھا کر دوسرا جگہ پھینکنا شروع کیا۔ فوجی اس منظر کی ویڈیو فلم بناتے رہے تاکہ امریکی قوم و ملت کو یہ بتایا جاسکے کہ ہمارے فوجی کتنے بہادر اور تیز رفتار ہیں کہ ایک لمحے میں وہ ان کے بقول دہشت گروں کو گرفتار کر کے انعام تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ انسانی لباس میں انسانیت کے خلاف وحشی امریکا کی ایک بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی تھی۔

مشروطہ رہائی کی پیشکش اور انکار:

ایک دفعہ آدمی رات کو تقریباً ایک بجے میر انبر پاکار کر مجھے نیند سے جگایا گیا اور تحقیق کے لیے مجھے دوسرا جگہ لے گئے وہاں پر ایک تفتیش کار اور ترجمان پہلے سے موجود تھا پھر دو اور ہر یہ تفتیش کار آگئے، میز پر چائے پڑی ہوئی تھی اور انہوں نے بڑی خوش آمد کی اور پھر قید خانے کے متعلق کچھ پوچھا پھر والوں کا پوچھا کر آپ کو ان کا کوئی پتہ حال و احوال ہے کہ

نہیں؟ میں بہت حیران ہوا کہ اتنی نرمی کیوں کر رہے ہیں پھر مجھ سے انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت تحقیق کی ہے آپ کے خلاف ہمیں کوئی بھی ثبوت نہیں ملا اور امریکی قید میں ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو رہا کر دیں لیکن آپ یہ ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کتنے پیسے چاہیں؟ کتنے میلیوں چاہیں؟ اور یہ بتائیں کہ ہمارے ساتھ ملا عمر اور اسامہ کی گرفتاری میں آپ کتنی مدد کر سکتے ہیں؟ ہم ابھی سے آپ کی رہائی کا بندوبست کرتے ہیں۔

اس لمحے میرے لیے گرفتاری اس رہائی سے ہزار درجہ بہتر تھی کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کے سرکاسودا کافروں سے کروں۔ میں بات دوسرا طرف لے گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ آخر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے مجھے کیوں گرفتار کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ تم القاعدہ کے رکن ہو گے اور تمہیں القاعدہ کے مالی مراجح اور کارکنوں کا علم ہو گا اور 11/9 کے بارے میں تمہیں مکمل معلومات ہوں گی لیکن تم ہماری تحقیقات کے مطابق بے گناہ نکلے اور تم صرف ایک محبت وطن شہری ہو۔ تو میں نے ان کے جواب میں کہا کہ آپ کے قول کے مطابق جب میں بے گناہ ہوں اور آپ نے امریکیوں اور آپ کے پاکستانی غلاموں نے مجھ پر ظلم کیا تو پھر میری رہائی کے لیے شرائط کیوں لگائی جا رہی ہیں اور بغیر کسی شرط و قید کے کیوں رہا نہیں کیا جا رہا؟ لیکن تفییض کا زیر احمد مالی و مادی لائق دیتے رہے اور تین دن تک یہ سلسلہ جاری رہا میرے انکار پر ان کا لالب و لجھ ایک مرتبہ پھر سخت ہوا اور پھر (جب و تشد دکا) پرانا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔

قدھار سے گوانتانامو بے منتقلی:

ایک روز صحیح کے وقت جب ہم خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ بہت سے فوجی ہمارے خیموں میں آئے اور دس دس قیدیوں کو زنجیروں اور بیڑیوں سے باندھ کر باہر لے گئے ہم آپس میں طرح طرح کی قیاس آرائیاں اور تصریح کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہ ہمیں رہا

کیا جا رہا ہے اور کوئی کہتا تھا کہ نہیں کسی اور جگہ منتقل کیا جا رہا ہے، غرض جتنے منہ اتنی باقی تھیں، اس کے بعد باری باری قیدیوں کے سر، ڈاڑھیاں، موچھیں اور یخنیوں مونڈھ دی گئیں اس طرح میری باری بھی آئی تو میرے لیے یہ مرحلہ موت سے سخت تھا، میری ڈاڑھی یخنیوں اور سر کے بال مونڈھ دیجئے گئے اور میں بے بس تھا، مزاحمت پر مجھے زوردار تھپٹر کھانا پڑا جس سے اس سے پہلے کے ایک ڈاکٹر کی مار بھی یاد آتی ہے کہ اس نے مجھے شدید تھپٹر آنکھوں پر اس وقت مارا تھا جب میں نے اس سے درد کی شکایت کی تھی اور ڈاکٹر کے دوبارہ استفسار اور میرے جواب پر اس شیطان ڈاکٹرنے مجھے اور مارا تھا۔

تم ہمارے غلام ہو:

جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ امریکی فوج نے قرآن کریم کی بے حرمتی کا سلسلہ قتل حار میں شروع کیا تھا اور یہاں کیوبا چیل میں تقریباً دس مرتبہ قرآن مجید کی انتہائی ذلت آمیز بے حرمتی کی گئی، پانچ مرتبہ تو خود امریکیوں نے بھی اسے تسلیم کیا اور اس پر میڈیا بھی گواہ ہے اور یہ ایک حقیقت تھی کہ امریکی قرآن کی بے حرمتی کر کے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دیتا چاہتے تھے کہ تم ہمارے غلام ہو اور تمہارے دین و قرآن کی کوئی عزت ہے اور نہ ہی قابل احترام و عزت ہیں۔ کیوبا میں ہمیں 80 فیصد سزا قرآن مجید کی بے حرمتی کر کے دیتے تھے کیونکہ امریکیوں کو معلوم تھا کہ قرآن کریم مسلمانوں کا نہ بھی صحیح ہے اور اس کی تو ہیں سے ان کی زبردست دل آزاری ہوتی ہے اور باتی 20 فیصد تکالیف اور تھیں۔

قرآن مجید کو دیکھ کر روتا تھا:

عبداللہ خان صوبہ اریزگان کے ضلع چارچینو کے رہنے والے ہیں اور ان کا اصل نام خیر اللہ ہے ان کو خیر اللہ خیر خواہ کے نام پر گرفتار کیا گیا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ قتل حار میں جب مجھ سے تفیش کی جاتی تھی تو مجھے الٹالٹایا جاتا تھا اور میرے سامنے امریکی فوجی قرآن مجید کو نکڑ لے گئے کر کے اڑا کتا تھا اور ان کے ساتھ کتا اسے منہ میں لیتا تو ہم سب اللہ اکبر کی

آواز لگاتے تھے، ایک مرتبہ جب ہم نے کتے کے منہ میں قرآن پاک دیکھا تو سب نے زور سے اللہ اکبر کا فخرہ لگایا اور قرآن مجید چھوڑ کر بھاگا اس پر فوجی نے قرآن مجید اٹھایا اور میری طرف پھینکا تو وہ جا کر با تھر دوم میں لگا۔ میں قرآن مجید کو دیکھ کر روتا تھا اور اسے مخاطب کر کے یہ کہتا تھا کہ اے قرآن مجید! تیر کوئی تصور نہیں تیرے ساتھ وحشی انسان بڑی زیادتی کر رہا ہے اور میں اس پر گواہ ہوں اور میرے ساتھ اس لیے زیادتی ہو رہی ہے کہ میں تجھ پر عمل کر رہا ہوں۔ اے قرآن کریم! ہم دونوں ایک دوسرے کی حالت دیکھ رہے ہیں کل قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں تمہارے متعلق اور تم میرے متعلق گواہی دینا کہ جابر فرعونی امریکی قوت نے ہم پر کیا زیادتی کی تھی۔

متولی صاحب سے ملاقات:

ایک دن مجھے تقدیش کے لیے لے جایا گیا تو ایک تقدیش کارنے پوچھا کہ ”آپ متولی صاحب (طالبان دور کے وزیر خارجہ جنہیں امریکہ نے افغانستان سے گرفتار کر کے گوانہا موبے میں قید کر دیا، پھر بے گناہ ثابت ہونے پر رہا کر دیا) کو جانتے ہیں؟ ان کا احترام کرتے ہیں؟ اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ ان سے آپ کی ملاقات ہو؟“ میں نے اثبات میں جواب دیا۔ مجھے شک ہوا کہ وکیل احمد متولی صاحب بھی پکڑے گئے ہیں۔ میں نے پوچھا ”متولی صاحب کہاں ہیں اور ان سے کیسے ملاقات ہو سکتی ہے؟“ تقدیش کارنے بتایا کہ ”وہ ہماری تحویل میں ہیں۔ آپ چاہیں تو ہم لے آئیں؟“ میں نے کہا ”ضرور.....“ میں ان سے اس لیے ملتا چاہتا تھا کہ معلومات لے سکوں اور ان سے طالبان بھائیوں کی حالت زار کے پارے میں پوچھ سکوں مگر مجھے اس امر کا پتہ نہیں تھا کہ ہماری ملاقات سے امریکی فوج کا مقصد کیا تھا؟ کچھ دیر بعد متولی صاحب کو لایا گیا۔ ان کے ہاتھ میں ایرانی بسک بھی تھے جو وہ بطور تخفہ میرے لیے لائے تھے۔ علیک سلیک کے بعد باقی شروع ہوئیں، میرے ہاتھ بند ہے ہوئے تھے اس لیے سکت کھانا ممکن نہ تھا۔ میں نے ان کا تخفہ

قول کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا مگر یہ بسکٹ میں اپنے ساتھ بھی نہ لے جاسکتا تھا۔ وہ منٹ گفتگو کے بات متول صاحب رخصت ہوئے اور مجھے واپس لے جایا گیا۔

رہائی کے بد لے امریکی جاسوس بننا ہو گا:

اس ملاقات سے مجھے اندازہ ہوا کہ بہت جلد گواہتانا موبے لے جایا جاؤں گا۔ کوکہ متول صاحب نے ایسی کوئی واضح بات نہیں کہی تھی مگر میراگمان یہی تھا۔ اس کے دوسرے دن مجھے پھر تفتیش والے کرے میں لے جایا گیا۔ یہ قندھار میں میری تفتیش کا آخری مرحلہ تھا۔ تفتیش کارنے مجھے بتایا کہ کم جوالی کو گواہتانا موبے کے لیے آپ کی پرواز ہو گی۔ ہم ان قیدیوں کو گواہتانا موبے سمجھتے ہیں جو مرتب دم تک وہاں رہیں گے اور موت کے بعد بھی یہ گارنٹی نہیں کہ ان کی میت وطن واپس لاٹی جائے گی یا نہیں؟ اب یہ آپ کے پاس آخری موقع ہے بتا کیں مگر جانا ہے یا گواہتانا موبے؟ مگر واپسی کے لیے اس تفتیش کارنے اپنی پرانی شرائط دھرائیں۔ بالفاظ دیگر مجھے کہا کہ آپ کو رہائی کے بد لے امریکی جاسوس بننا ہو گا۔ اللہ مجھے اس کام سے بچائے۔ تفتیش کارنے سوچنے کے لیے پھر ایک دن کی مہلت دی اور کہا کہ خوب سوچ سمجھ کر کل جواب دے دو۔ میں نے بغیر کسی تامل کے جواب دیا کہ کل بلا نے کی ضرورت نہیں۔ میں نے سوچ لیا ہے، میں کسی قسم کی مصلحت سے کام نہیں لوں گا کیونکہ میں خود کو قصوردار نہیں سمجھتا۔ آپ کی مرضی جہاں لے جانا چاہتے ہیں، لے جائیں۔ میرا جواب سننے کے بعد مجھے واپس خیمے میں لا یا گیا۔ میں اس بات کا انتظار کرنے لگا کہ کب مجھے گواہتانا موبے برداشت کیا جائے گا۔ اس کے اگلے دن میری ڈاڑھی، سر کے بال اور مونچیں پھر موٹھ دی گئیں۔

برہمنہ فتوگرافی:

کم جوالی 2002ء کی شام بہت زیادہ تعداد میں امریکی فوجی آئے اور ہم میں سے آٹھ افراد کو قطار میں کھڑا کر کے سروں پر کالے تھیلے چڑھائے گئے، کافنوں میں روئی ٹھوٹی

گئی اور ہاتھ باندھے گئے۔ ہم آنحضرت افراد کو ایک دوسرے کمرے میں منتقل کر دیا گیا، جہاں ہمارے کپڑے اتارنے گئے اور ہماری بردھن فتوگرانی شروع ہوتی۔ اس کے بعد سرخ رنگ کے کپڑے اور سرخ بوٹ پہنانے گئے، ہاتھ پاؤں میں ہھکڑیاں اور بیڑیاں ڈالی گئیں۔ ہھکڑیاں ایسی سخت تھیں کہ ہم اپنے ہاتھوں کو حرکت تک نہ دے سکتے تھے۔ کچھ دیر بعد ہمیں مار مار کر اور دھکے دے دے کر جہاز میں سوار کرایا گیا جہاں ہم سب کو ایک مشترکہ زنجیر سے باندھ کر اس کو تالا لگا دیا گیا۔ زنجیر کو اس قدر گس کر باندھا گیا تھا کہ کوئی بھی ساتھی حرکت نہ کر سکتا تھا، نہ آگے نہ پیچے، نہ دائیں نہ بائیں۔ ایک نئے عذاب نے ہمیں گھیر لیا۔ جہاز نے اڑان بھری، ہرقیدی کے سامنے دوفوجی کھڑے ہو گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ قیدیوں کی فریاد بھی بڑھتی گئی۔

قدھار سے گواتانا موبے تک ایک گلاس پانی:

میرے ساتھ ہی بندھے خیر اللہ خیر خواہ (سابق گورنر ہرات) نے کئی بار ہاتھوں میں تکلیف کی شکایت کی مگر بے سود۔ میں بھی سخت اذیت سے دوچار تھا، کمر ٹوٹی محسوس ہو رہی تھی، پاؤں میں اتنا شدید درد تھا جیسے کاٹے گئے ہوں۔ شکایت اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ قصائی کو کون ڈاکٹر سمجھتا ہے۔ کچھ دیر بعد بہت سے ساتھیوں نے تکلیف کے مارے باقاعدہ رونا شروع کر دیا، جیسے ہر کوئی نزع کی حالت میں ہو۔ ہمیں پرواز سے چار گھنٹے قبل جہاز میں باندھا گیا تھا، تین گھنٹے جہاز اتنے کے بعد رکھا گیا جبکہ تیس گھنٹے کی مسافت تھی۔ اس طرح جہاز سے قید خانے تک ہم نے جو وقت لیا وہ کل ملا کر 30 گھنٹے بنتا ہے۔ ہم 30 گھنٹے زندگی کے سخت ترین عذاب سے گزرے۔ ہمیں موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کڑے وقت کی جزا اپنی رضا کی صورت میں ضرور عطا فرمائے گا۔ قدھار سے گواتانا موبے تک ہرقیدی کو صرف ایک گلاس پانی اور ایک عدد سیب دیا گیا۔ شبابش انسانی حقوق کے علمبردارو! 30 گھنٹے اور ایک سیب اور ایک گلاس پانی؟ اس سے اندازہ لگائیے کہ امریکیوں کے دلوں میں انسانیت کا

کتنا احترام ہے۔ میں نے سیب کو ہاتھ لگایا نہ پانی کو۔ اول تو ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، دوم اگر میں کچھ کھاتا پیتا تو پیشاب کی صورت میں ایک نئے عذاب سے گزرنی پڑتا۔ ہم سب کے ہاتھ پاؤں سوچ گئے، وہ بارہ گھنٹے تو بالکل بے حس ہو گئے، ہھکڑیاں اور بیڑیاں ہاتھ پاؤں میں چھپے گئی تھیں جن کو اتارتے وقت امریکیوں کو بھی وقت ہوئی۔ دوران سفر جہاز کچھ و قفقے کے لیے ایک جگہ اتار بھی تھا مگر ہمیں پتے نہیں چلا کروہ کون سی جگہ تھی۔

گوانٹانامو بے متفقی:

ہمیں جہاز سے ایک ایک کر کے اتارا گیا۔ پھر ایک دوسرے کے پیچے باندھ کر گاڑیوں میں ٹھونسا گیا، انگلش اور عربی زبانوں میں حرکت نہ کرنے کا حکم بار بار سنایا جاتا۔ کوئی حرکت کرتا تو زور دار لالات اس کا مقدر بن جاتی، میں نے بھی متعدد لالات کھائیں۔ ہمارے ہاتھ پاؤں کی سوچ جن ایک مہینے تک برقرار رہی جبکہ تین مہینے تک ہاتھ پاؤں ایسے محسوس ہوتے تھے جیسے شل ہو چکے ہوں۔ ہم سب کو گاڑیوں سے اتارا گیا اور سیدھا ایک کلینک لے جایا گیا، جہاں سارے قیدیوں کے ایکسرے کرائے گئے۔ پھر ایک تفتیش کر رہے میں لے جایا گیا۔ میری باری آئی تو پہلے مجھے اس کرے میں باندھا گیا، کچھ دری بعد ایک شخص آیا جو فارسی بولتا تھا، اس نے پوچھا ”کیسے ہو؟ میرا نام نام ہے، مجھے یہاں تفتیش کے لیے مامور کیا گیا ہے۔“ میں سخت تھا کہا ہوا تھا، بات نہ کر سکتا تھا۔ صرف اتنا کہا کہ میں بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، پھر دیکھیں گے گراس کا بات کرنے کا اصرار بڑھتا رہا۔ میں نے سوچا کہ پہلے گوانٹانامو بے بھیجے جانے سے ڈرتا تھا، اب ڈر کا ہے کا ہے؟ بلکہ اب تو میں موت کو اپنی زندگی پر ترجیح دیتا تھا۔ نام جتنا اصرار کرتا تھا میں سخت ہوتا گیا جتنی کروہ مالیوں ہو کرو اپس پلٹ گیا۔

پانچ مہینے بعد وضو کا پانی ملا:

کچھ دری بعد فوجی آئے اور مجھے روادہ کر دیا، ہم سب قیدیوں کو اس قید خانے میں لے

گوانہ ناموبے کی کہانی مثلا ضعف کی زبانی

چایا گیا جو آہنی کنٹریز سے بنا یا گیا تھا۔ یہاں ہاتھ پاؤں کھولے گئے۔ ایک فوجی آیا اور قیدیوں کو پہلے سے تیار کیا گیا کھانا دیا۔ یہاں خوشی کی بات یہ تھی کہ پانچ مینے کے بعد پانی ملا جس سے ہم وضو کر سکیں۔ میں نے جلدی جلدی وضو ہایا، نماز پڑھی اور سو گیا۔ کچھ دری سویا تھا کہ قیدیوں کی آواز سے جا گا جو بلند آواز میں باشیں کر رہے تھے۔ رات لمبی ہو گئی تھی، کچھ بھائیوں نے کہا کہ یہاں دھوپ نہیں لٹک لے گی، کسی نے خیال ظاہر کیا کہ یہاں رات 18 مکھنے کی ہو گی۔ حقیقت کوئی بھی نہ جانتا تھا، میں پھر سو گیا، تہجد کے لیے بھی نہ اٹھا۔ مجرم کی نماز تک گہری نیند سوتا رہا، نفو جیوں کی آواز تھی نہ کتوں کے بھونکتے کی۔ صبح ہوئی، نماز پڑھی پھر گپ شپ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اچھی بات یہ تھی کہ اندر بلاک میں باتوں پر پابندی نہ تھی اور نفو جیوں کا رو یہ گرام اور قندھار میں معین نفو جیوں سے بہتر تھا۔ نبہتا آزادی تھی مگر یہ آزادی نفس کے اندر تھی۔ ہر قید خانے کی لمبائی چھ فٹ اور اور اونچائی ساڑھے چار فٹ تھی۔ جستی چادر کی ایک شیٹ قید خانے کے درمیان میں ویلڈ کی گئی تھی جو چار پانی کا کام دیتی تھی۔ بیت الحلاء قید خانے کے اندر ہی بنا یا گیا تھا۔ کویا نیند، خوراک، نماز اور رفع حاجت ساری ضرورتیں اتنی سی مختصر جگہ میں پوری کرنی ہوتی تھیں۔ اس جگہ کو آپ پنج بجے کا نام دے سکتے ہیں۔

”کیف حالک“ :

دو بخربوں کے ماہین اُنکی جالیاں تھیں، رفع حاجت کے وقت بہت مشکل پیش آتی تھی، کوشش ہماری یہ ہوتی کہ ایک دوسرے سے پردہ کر سکیں۔ ہم جس پرواز میں آئے تھے اس میں 7 افغانی بھائی تھے جبکہ باقی عرب تھے۔ ان میں خیر اللہ خیر خواہ، حاجی محمد صراف، مولوی محمد حیم مسلم دوست، پدر الزمان، علیم خیر اللہ اور دوسرے بھائی جن کے نام اب یاد نہیں، شامل تھے۔ ساتھی کہتے تھے کہ یہ گوانہ ناموبے نہیں عرب کا کوئی جزیرہ ہے کیونکہ آب وہاں عرب ممالک کی طرح ہے۔ ہمیں قبلے کی سمت کا بھی کچھ پتہ نہ تھا۔ عرب بھائی

امریکیوں کے ہر قول فعل پوشک کیا کرتے تھے، بعض قیدیوں کو شک تھا کہ پھرے پر مامور فوجی امر کی نہیں، عرب ہیں۔ اسی لیے وہ ان فوجیوں کے سامنے عربی میں بات نہیں کیا کرتے تھے تاکہ ان کے راز افشا نہ ہوں۔ کبھی کبھی ان فوجیوں کے منہ سے بھی عربی الفاظ شکلتے تھے مثلاً جب کسی قیدی کے سامنے آتے تو کہتے: ”کیف حالک؟“

گواہتانا موبے کا پہلا گیکپ:

ہمیں گواہتانا موبے میں اپنی دفعہ جس کمپ میں لے جایا گیا اس کے 8 بلاک تھے۔ ہر بلاک میں 48 قیدیوں کو رکھا جاتا۔ دو پھر نے یعنی واک کی جگہیں اور 4 باتھروم بھی تھے۔ یہ سارے بلاک لوہے کے بنائے گئے تھے، چھت اور فرش بھی ہٹنی تھے اور دیواریں بھی۔ دیوار میں ایک چھوٹا سوراخ تھا جس سے ہمیں کھانا دیا جاتا تھا، یہ سوراخ صرف کھانے کے وقت ہی کھلتا۔ یہاں کے فوجی انتہائی بد اخلاق تھے، قیدیوں کو انتہائی کم کھانا دیتے تھے۔ ایک بلاک کے قیدی دوسرے بلاک کے قیدیوں سے بات چیت نہ کر سکتے تھے۔ سرخ رنگ کے موٹے اور کمر درے کپڑے پہننے کے لیے دینے جاتے۔ زیر جامدہ کچھ نہ تھا جس کی وجہ سے بہت سے قیدیوں کی جلد خراب ہو گئی تھی۔ ہر قیدی کے لیے کوئی خوبی نہ مارکر مخصوص تھا جس میں دو پتلے بستر، ایک چادر، دو گلاس، ایک پانی کی بوٹی، دو تو لیے، ایک چھوٹی پلاسٹک شیٹ، ایک ٹو تھہ برش، ایک ٹو تھہ پیسٹ اور قرآن مجید کا ایک نسخہ پڑا ہوتا۔

رہائی کے بعد لڑائی اور شہادت:

کوئی قیدی سزا کا سخت قرار پاتا تو صرف پلاسٹک کی شیٹ اس کے پاس رہنے دی جاتی تھی، باقی چیزوں لے لی جاتیں۔ قیدیوں کا زیادہ تر وقت سزا میں گزرتا، بعد میں دوسرا یکپ بھی بنا۔ جزل بدل گئے جس سے شرائط میں بھی تبدیلیاں آگئیں۔ سختیاں بڑھ گئیں اور تین مرید بلاک قائم کئے گئے، مذہبی کتابیں لے لی گئیں، روزانہ جامت کی جانے گی، قیدیوں کو چال کی ٹیکریز میں تقسیم کر دیا گیا۔ سب سے سخت شرائط والا درجہ چوتھا تھا۔ اس

درجے والے قیدیوں کو صرف پلاسٹک کی ایک شیٹ دی جاتی تھی جو سردی سے چاؤ کے لیے ناکافی تھی۔ ارزگان کے رہنے والے ملائکہ الغفور میرے پڑوئی تھے، ہر وقت سزا بھگتے رہتے۔ امریکی تعصباً ان کے لیے دن بدن بڑھتا رہا۔ وہ آخر کار اتنا جنگ آگئے کہ جب بھی کوئی امریکی فوجی نظر آتا تو گلے پر ذبح کرنے کے انداز میں انگلی پھیر کر اپنے انداز میں امریکی فوجی کو ذبح کرنے کی دھمکی دیتے اور ہر وقت انتقام لینے کی باتیں کیا کرتے تھے۔ امریکی ترجمانوں کو بھی بر ابھال کہتے تھے۔ میں ان کو بہت سمجھا تھا اور سزا سے ڈرا تھا لیکن وہ نہ مانتے۔ پھر کچھ عرصے بعد ان کی شہادت کی خبر ملی۔ اسی طرح میری گوانٹانامو بے میں موجودگی کے دوران قندھار کے ملا شہزادہ کی شہادت کی خبر بھی ملی جن کو رہا کیا جاتا تو وہ افغانستان واپسی پر پھر ان کے خلاف لڑنا شروع کر دیتے اور پھر گرفتار ہو کر یہاں پہنچ جاتے۔

گولڈ بلاک کی کوٹھری نمبر 15:

میں سال 2003ء تک ڈیلٹا کیپ کے بلاک نمبر 1، گولڈ بلاک کی کوٹھری نمبر 15 اور 8 میں قید رہا۔ پھر تیسرا کمپ کی 30 نمبر کوٹھری میں منتقل کر دیا گیا۔ یہ بلاک نسبتاً لف انزو زاس لیے تھا کہ یہاں سے دریا نظر آتا تھا جو صرف 50 میٹر دور تھا، کشیاں بھی نظر آ جاتی تھیں۔ کچھ عرصہ بعد انفرادی کوٹھری لے جایا گیا، میں زیادہ تر وہاں رہا۔ چونیں گھنٹوں میں صرف پدرہ منٹ واک کی اجازت ملتی، اس دوران بھی ہاتھ چیچھے بند ہے ہوتے۔ بہت عرصے تک ناخن کاٹنے اور سر کے ہال موڑنے کی مشین کا بند و بست نہ تھا، کھانا بہت کم ملتا تھا، کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا کہ پورا مہینہ ایک مرتبہ بھی پہیٹ بھر کے کھانا قصیب نہ ہوتا۔ بھوکار کھنے کی وجہ سے اکثر قیدی یہاں رہتے، کھانا فوجی تقسیم کرتے تھے اور اس تقسیم کا کوئی قانونی اندازہ نہیں تھا۔ پلاسٹک کے لفافوں اور برتوں میں خوارک تقسیم ہوتی تھی، ڈسپوزبل برتن واپس لے لئے جاتے اور تلف کرنے کی بجائے انہی برتوں میں دوبارہ کھانا دیا جاتا۔ خوارک میں مچھلی، بھرگی، گوشت، بھنڈی، بولیا، گوگھی، آلو، چاول اور ااغڑے ملتے تھے۔

ایک نوالے کے براہ رجاوی:

روئی چار قسم کی ہوتی، کھانا باری باری پکتا تھا۔ بزری الٹی ہوتی ملتی تھی اور سالم ان کثیر خندنا ہوتا جس کی وجہ سے قیدیوں کو قبض کی شکایت رہتی تھی۔ محمل بدد بودار ہوتی اور سرفی کے گوشت میں خون صاف نظر آتا، چاول اتنے کم ہوتے کہ نصیب اللہ نامی ہمارے ایک ساتھی ایک نوالہ بھر کر کھایتے تھے۔ روئی اتنی کم مقدار میں ملتی کہ پچھے کا پیٹ بھی اس سے نہ بھر سکتا تھا۔ تاہم دن کو تین قسم کا فروٹ بھی دیا جاتا جبکہ ناشے میں ایک گلاس دودھ دیا جاتا، جو روئی کی کپی پوری کر دیتا تھا۔ متصسب فوجیوں کی ڈیلوٹی ہوتی تو فروٹ اور دودھ نہ ملتا اور نماز باجماعت پڑھنے پر پابندی لگ جاتی۔ بند کو ٹھڑیوں میں قیدیوں کو نماز کے اوقات کا پڑھنہ چلتا اس لیے ہر قیدی اپنے اندازے کے مطابق نماز پڑھتا، نبٹا کھلے قید خانوں سے اذان کی آواز آتی تو امریکی فوجی ہوا میں مکاہرا کرنفترت کا انتہا کرتے تھے۔ ڈیلانا کا تیرسا کیپ بننے سے مشکلات اور بڑھ گئیں، کھانا کم کر دیا گیا اور قیدیوں کی حالت مزید خراب ہو گئی، بزرگی میں مرید ہنگی لائی گئی۔ کیوبک کے نام سے نیا کیپ قائم کیا گیا جہاں سخت سردی میں قیدیوں کو صرف ایک نیکر میں رکھا جاتا۔ یہ قیدی لو ہے کی خندی چادر پر سوتے اور نماز بھی نیکر میں ہی پڑھتے۔

بدن کی گرمائش کے لیے چھلانگیں:

سخت سردی کی وجہ سے اکثر قیدی بینچ کر سوتے تھے، بیت الحلاء بھی کھلا تھا اور پردے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ بدن کی گرمائش کے لیے قیدی اکثر چھلانگیں لگاتے تھے لیکن ایک جگہ کھڑے ہو کر جمپنگ کیا کرتے تھے۔ واش روم میں نائلک ہمچوہ ہوتا نہ پاتی۔ اس لیے اکثر قیدی پینے کا پانی اپنی صفائی کے لیے رکھ دیتے اور پانی اس لیے بھی کم پینے تاکہ پیشاپ نہ آئے، اسی وجہ سے روئی بھی کم کھاتے تاکہ لیٹرین کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اس کیپ میں پلیٹ کی بجائے ہاتھ میں کھانا دیا جاتا تھا، انسانی حقوق کے ملبرداروں سے اسی طرح کے سلوک کی توقع رکھی جاسکتی تھی۔ مجھے اس کیپ میں کم از کم ایک مہینہ کھا گیا، جو قیدی فوجیوں

کے ساتھ ابھتے ان کی قید میں پانچ صینے تو سیع کر دی جاتی تھی۔

گوانہ نامو بے میں ایک بلاک پاگلوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ جس میں بھک آ کر بعض قیدی خود کشی کر لیتے۔ خود کشی کے واقعات بڑھ گئے تو قیدیوں کو زنجروں سے باندھ کر رکھا جانے لگا اور نہ آور چیز کھلا کر یا انجکشن لگا کر ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا۔

ڈیٹا کا دوسرا اور تیسرا کمپ:

بعد میں دو مرید کمپ بن گئے۔ ایک بہت سخت تھا جبکہ دوسرا میں زندگی نسبتاً آسان تھی۔ ایک کو 4th Camp کا نام دیا گیا اور آخری کو 5th Camp کہا گیا۔ آخری کمپ میں بہت سختیاں تھیں۔ یہاں زندگی گزارنے کے لیے پہاڑ جتنے حصے کی ضرورت تھی، اکثر قیدیوں کو اس کمپ سے یا تو نخل کر دیا جاتا یا پھر رہا کر دیا جاتا۔ ایک فوجی کی میرے ساتھ گپ شپ تھی، اس نے بھی مجھ سے یہ بات چھپائی کہ ان قیدیوں کو کہاں نخل کیا جاتا ہے۔ جو بھائی پانچویں کمپ سے والپیں لاایا جاتا تو وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہوتا، ہم اس کی دلکل سے ڈرتے۔ اس کمپ کو قیدی ”پانچویں قبر“ کہتے تھے۔ میں نے ایک مرتبہ یونیکی کے شیخ جابر سے پوچھا کہ آپ کس کمپ میں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا ”میں زندگی کی قبر میں ہوں۔“

چوتھا کمپ:

چوتھا کمپ اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ جن قیدیوں کو رہا کیا جاتا ہے تو یہاں رکھ کر ان کی سخت بحال کی جاسکے۔ شاید اسی مقصد کے لیے قیدیوں کو پورا کھانا اور افر مقدار میں فروٹ دیا جاتا۔ اس کمپ میں 200 افراد کی مجموعیں تھیں اور فوجیوں کا سلوک ٹھیک تھا۔ یہاں ہر کروڑ دس افراد کے لیے تھا، بلاکوں کے سامنے کھانے اور واک کرنے کی بڑی جگہیں تھیں۔ باجماعت نماز پڑھنے اور ورزش کرنے کی یہاں اجازت تھی، ہر کمرے میں دو دو ٹکے لگے ہوتے۔ چھوٹیں گھنٹوں میں ایک پار نمائشی فلم بھی دکھائی جاتی، اکثر قیدی فلم دکھانے اور

دیکھنے کی مخالفت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تو ایک عرب بھائی نے اُنی وی تورڈیا تھا۔ ایک اسکول بھی کھولا گیا تھا اور اس اسکول کے بعض طلباں کی عمر 70 سال سے زیادہ تھی۔ ملی چیک اپ کا نظام بھی اچھا تھا۔ فٹ بال، والی بال اور بیڈ منشن کھیلنے کی اجازت تھی۔ جب کوئی وفد آتا تو کھیلوں کی سرگرمیاں منسون ہو جاتیں۔

50 لاکھ ڈالر کی رشوت:

ایک دن ایک فرنچ کٹ ڈاڑھی والا فتنیش کار آیا، اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کے لیے حصوںی طور پر واشنگٹن سے آیا ہوں۔ مجھے وہ داری لگتا تھا۔ قریب آیا اور میرے ہاتھ پاؤں ایسے دیکھنے لگا جیسے کوئی ڈاکٹر ہو، میرے زخموں کے نشانات دیکھ کر افسوس کرنے لگا اور پوچھنے لگا کہ ان ظالموں (امریکیوں) نے آپ کو اتنا سخت بامدھ کے رکھا؟ ان کو حم کیوں نہ آیا؟ کیوں کیوں آیا؟ اس کے بعد اس نے میری طرف دیکھ کر کہا: ”میں آپ کے لیے بڑی خوشخبری لایا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کے لیے پانچ ملین ڈالر مخفی کیے ہیں۔ آپ اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر دیں۔ اس رقم پر صرف اور صرف آپ کا اختیار ہو گا آپ کے پاس گاڑی ہو گی، اپنا ذاتی بنگلہ ہو گا اور آپ کا شارکا میل کے امیر ترین لوگوں میں ہو گا۔“ مجھے یہ سن کر کابل میں مشہور مل اور چو ہے کا لطیفہ یاد آگیا کہ اتنا مختصر سفر اور اتنا زیادہ فائدہ؟ ساتھ ہی اپنا بچپن بھی یاد آگیا جب ہم مٹی کے گھروندے بناتے، محل بناتے، ان میں شادیاں کرتے اور اپنی سلطنت بناتے تھے۔ میں نے پوچھا میرے اوپر اتنا احسان آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہمارے لیے کام کرو، ہم جو کہیں وہ مانو، پھر عیش کرو۔ میں نے کہا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے بھی آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیا ہے اب بھی بھی بھی کہوں گا۔ مجھے اور کچھ نہیں صرف آزادی چاہیے اور بس۔ دوسرا یہ کہ میرا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے۔ اس طرح چار گھنٹے بحث سے بعد وہ چلا گیا۔ مجھے رہائی نصیب ہوئی اور نہ کوئی پیسہ ملا۔

گوانہتا نامو بے کی کہانی مکا ضعیف کی زبانی

اطاعت کرو گے تو زندگی آسان ہو جائے گی:

وند کے لوگ آتے، ہماری اور کروں کی تصاویر ہناتے، ہمیں ان سے بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ ان میں اکثر امریکی بینیزز، صحافی اور سیاح ہوتے۔ اس کمپ کا یونیفارم سفید رنگ کا تھا، زیر جامہ اور بنیان بھی دی جاتی، یونیفارم کے تین جوڑے دیئے جاتے، جنہیں خود ڈونے کی اجازت تھی۔ صابن اور شپہر بھی دیا جاتا تھا۔ کوئی قیدی کمپ کے ابتدائی حصے میں خلخل ہو جاتا تو اس کی رہائی کی ہات پھیل جاتی۔ ہمیں بھی یقین ہوتا کہ اب اس کو رہا کر دیا جائے گا اور امریکی بھی کہتے کہ کمپ کے اس حصے میں ایک مینے سے زیادہ کسی کو قید نہیں رکھا جاتا اور اس کے بعد اس کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ مگر بعض اوقات یہ ایک مہینہ برسوں میں تبدیل ہو جاتا۔ امریکیوں کی یہ وعدہ خلافی اور جھوٹ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہ تھی۔ ہر بلاک کے دروازے پر قواعد و ضوابط یا ہدایت نامے درج ہوتے تھے۔ ان میں لکھا ہوتا کہ ہماری اطاعت کرو گے تو زندگی آسان ہو گی، امتیازی سلوک آپ کا حق نہیں مگر اطاعت کرنے والوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاسکتا ہے۔ بصورت دیگر مزید خیتوں کے لیے تیار ہو۔

گندی رنگ والے امریکی فوجی:

گوانہتا نامو بے میں فوجیوں کے گروپ بدلتے رہتے تھے۔ ان میں اچھے لوگ بھی ہوتے اور بے بھی۔ ہر چھٹے مینے بعد فوجی بدلتے۔ زیادہ تر فوجی ہماری حالت زار پر افسوس کرتے اور ہماری درد بھری دانتا نیں سن کر کہتے کہ امریکی حکومتی عہد یہاں ہمیں صحیح استعمال نہیں کر رہے اور جھوٹ بول کر ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ فوجی وعدہ کرتے تھے کہ وہ متعصب امریکی وشیوں کے سلوک سے میڈیا کو آگاہ کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں انہوں نے ایسا کیا ہو۔ ایک دن ایک بڑے فوجی افسر نے امریکیوں کا وحشی سلوک دیکھا تو روپڑا اور کہنے لگا کہ ہم ظالم ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ خود کو مجبور اور بے بس بھی کہتا رہا۔

امریکی فوجیوں کی قسمیں:

امریکی فوجیوں کے رنگ کے لحاظ سے تین گروپ تھے، گندی رنگ کے حامل فوجیوں کا سلوک اچھا تھا، وہ متعصب نہیں تھے۔ کامل رنگت والے دنیوں کی طرح ست، کم عقل اور غلاموں کی طرح کی طبیعت کے مالک تھے، ان پڑھتم کے تھے اور بے تحاشا کھانا کھاتے تھے یہ کا لے فوجی امریکی گورے فوجیوں کے خلاف بہت ٹھکائیں کرتے تھے، ان کو گالیاں دیتے اور ان کو خود غرض اور ظالم کہتے تھے۔ کا لے فوجی جب ہم سے ہات کرتے تو انہی کی احتیاط سے کام لیتے تھے، ہمیں کوئی چیز دیتے تو اور ہرا درد کیوں کر چکپ کر دیتے تھے۔ سرخ امریکی فوجی اور دموکرے ہاڑتے، جھوٹ کے استاد تھے اور کالوں سے خود کو بر تمثیل کرتے تھے۔ تغییش کاراکٹر بھی سرخ امریکی ہوا کرتے تھے جبکہ چوتھے گروپ کے فوجیوں کی تعداد خاصی کم تھی۔ اس گروپ کے فوجیوں کو ”اعذین“ کہا جاتا تھا جو اصل امریکی ہیں اور امریکا کا دریافت ہونے سے قبل وہاں آباد تھے۔ ان کی تعلیمی سطح انتہائی کم تھی، اکثر فوجی نہ کرنے والے تھے، دیگر امریکی فوجی اپنے ہی ملک کے ان فوجیوں پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ یہ فوجی بھی دوسرے امریکی فوجیوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے اور ان کو بے رحم و ظالم کہتے تھے۔ وہ ہمیں تسلی دیتے اور مظلوم کی نظر سے دیکھتے۔

گواہتانا موبے میں امریکی فوجیوں کے مختلف گروپ:

گواہتانا موبے میں فوجیوں کے تین گروپ تھے، ایک گروپ کا نشان درخت تھا، دوسرے کا کبوتر، تیسرا کا ہلال تھا۔ درخت کا نشان رکھنے والا گروپ اچھا سلوک کرنے والے فوجیوں پر مشتمل تھا۔ یہ فوجی پروگرام کے مطابق عمل کرتے تھے۔ متعصب نہیں تھے، پورا کھانا اور چہل دیتے تھے، مریضوں کا خیال رکھتے تھے۔ نیند کے اوقات میں بیکھر نہیں کرتے تھے، بے وجہ تلاشی اور تغییش نہیں کرتے تھے، غسل اور چہل تدمی کا پورا وقت دیتے تھے، افراد کو جھوٹی روپ رٹھیں نہیں دیتے تھے، ہمارے کپڑوں کا بھی خیال رکھتے تھے،

ہھکڑیاں اور بیڑیاں احتیاط سے پہناتے تھے، ہمارے ساتھی بھی اس گروپ کے فوجیوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنتا تھے۔ اگر کوئی دل برداشت ہو کر اس گروپ کے فوجیوں سے سخت لمحے میں بات کرتا تو ہم اسے سمجھاتے کہ یہ اچھے لوگ ہیں۔ کبوتر کا نشان رکھنے والے گروپ کے فوجی مختلف مزاج کے تھے۔ شیڈول کے مطابق کام کرتے تھے گرینیم متصب تھے۔ کھانے میں نا انصافی سے کام لیتے تھے اور قیدیوں کو بار بار سزا میں دیتے تھے، رات کو پریشان کرتے اور پوری نیند نہ لینے دیتے مگر ان میں بھی بعض فوجیوں کا روایہ ٹھیک تھا۔

جس گروپ کا نشان ہلال تھا اس کے فوجی پر لے درجے کے متصب تھے، ان کا اخلاقی درجہ صفر تھا، قیدیوں کو ہمیشہ بھوکار کرتے تھے، ان کو گندے کپڑے دیتے تھے، نیند کے وقت بیلوں اور کتوں کی طرح آوازیں نکال کر پریشان کرتے اور قیدیوں کے ساتھ تو ہیں آمیر سلوک کر کے ان کو غصہ دلاتے تھے۔ ان میں بعض فوجی ایسے تھے جن میں بعض اوقات انسانوں والی نشانیاں دیکھنے کو ل جاتی تھیں۔ ان کے علاوہ بھی تین چھوٹے گروپ تھے ان میں چاپی والا گروپ، ہسپانوی گروپ اور ناکن فور (94) ناہی گروپ تھا۔ ہسپانوی گروپ کے فوجیوں میں تھبب نہیں تھا، ان میں بلا کی انسانی ہمدردی تھی، وہ ہم سے کہتے تھے کہ ہمارے آباؤ و اجداؤ مسلمان تھے، اسی وجہ سے وہ نماز کا احترام کرتے تھے، قرآن کریم کی بے حرمتی نہیں کرتے تھے اور اضافی روٹی کے ساتھ ساتھ پانی، شیپو اور صابن بھی دیتے تھے۔ اس گروپ کے فوجی انتہائی منقصہ مدت کے لیے وہاں رہے کیونکہ بعد میں امریکیوں کو شک ہو گیا تھا کہ وہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ مجھے ایک ہسپانوی فوجی نے ہٹائے جانے سے میں دن قبل کہا تھا کہ امریکی حکام ہمیں یہاں رہنے نہیں دیں گے اور کسی دوسری جگہ منتقل کر دیں گے۔

چاپی والے گروپ کے فوجیوں کو انسانیت چھو کر بھی نہیں گزرا تھی، تھبب ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، ہر وقت بد اخلاقی کے مظاہرے کرتے رہتے، اور ہمارے مذہبی

شمارہ کا احترام نہ کرتے تھے۔ اپنے اعلیٰ حکام کو جھوٹی رپورٹیں ارسال کرتے اور قیدیوں کو سخت سزا میں دلواتے۔ قرآن مجید کی بار بار بے حرمتی کرتے، قیدیوں کو مشتعل کرتے، ان کو تشدد کا نشانہ باتے اور رات کے وقت بے جا تلاشی لیتے اور جب قیدی مخواہ ہو جاتے تو فرش کے ساتھ اپنے بھاری بوٹ مار مار کر شور مچاتے۔ تاہم ان میں سے بھی بعض فوجی قیدیوں کی خدمت کرتے نظر آ جاتے۔ 94 گروپ کے فوجیوں میں شیطانی خصلتیں تھیں۔ وہ تمام کے تمام حشی اور مغرور تھے، قیدیوں کی تکلیف میں خوشی محسوس کرتے تھے اور ان کو جتنی تکلیف دے سکتے، دیتے تھے۔ نیز ہندہ بات کرتے اور اگر کوئی قیدی تکلیف سے مر بھی رہا ہوتا تو یہ اس کے قریب نہ جاتے۔ ڈاکڑوں کو مریضوں کی رپورٹ بروقت نہ دیتے تھے، بغیر کسی وجہ کے سزا میں دیتے تھے، ہربات پر گالی دیتے تھے، ان کا رویہ اتنا خراب تھا کہ قیدیوں نے باقاعدہ ہراحت شروع کر دی جس پر ان فوجیوں کو وہاں سے منتقل کر دیا گیا۔ ہمارا شک تھا کہ وہ یہودی تھے اور اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔

جزل طرکا ایکیکپ:

یہ امریکا جزل بہت ظالم اور متعصب تھا۔ اس نے فوجیوں کو قیدیوں کے ساتھ حشی سلوک کی مکمل اجازت دے رکھی تھی۔ بعد میں اس کو عراق تبدیل کر دیا گیا۔ ایکیکپ بھی اسی نے بنایا تھا جس میں 24 گھنٹے اندر میرا چھایا رہتا، اس کیکپ میں الگ الگ چھوٹے چھوٹے کرے ہوتے تھے جن میں قیدی تھا ہوتے تھے، یہاں قید بھائیوں کو اندر کرے کے باعث دن اور رات کا پتہ نہ چلتا تھا۔ یہاں رہ کر بہت سے قیدی نفیاتی مریض بن گئے تھے۔ قیدی یہاں پر چینتے لیکن ان کے چینتے کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی تھیں۔ ریموت کنٹرول کیسے گلہ گلہ نصب تھے جن کے ذریعے قیدیوں کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی جاتی تھی۔ برلن اور شہریت رکھنے والا ہمارا ایک بھائی احمد اس کیکپ میں تین سال گزارنے کی وجہ سے شدید پریشان کا مریض بن گیا تھا۔ احمد بنی تعلیم حاصل کرنے پاکستان گیا تھا مگر

حکومت پاکستان نے اس کو پکڑ کر امریکا کے حوالے کر دیا۔ میرا قندھار قیدی کمپ میں بھی پڑھی تھا، انگلش روائی سے بولتا تھا۔ احمد کو بعد میں اتنے امراض لاحق ہو گئے تھے کہ وہ بالکل بے حس ہو کر رہ گیا تھا، کوئی بات اس کے سمجھ میں نہیں آتی تھی، ہر وقت اپنے آپ سے باتیں کرتا رہتا۔ گوانہتا موبے میں بھی کبھار رات کو اٹھ کر تیش پڑھتا اور تلاوت کرتا، اکثر قرانی آیات غلط پڑھتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ مهدی علیہ السلام آرہے ہیں، اس بات سے خود کو قتل دیتا۔ یمن کے طارق عبدالرحمٰن المعرف ڈاکٹر ایمن سعید آر تھو پیڈک سر جن تھے۔ ویزہ لے کر تعلیم کے حصول کے لیے پاکستان گئے تھے اور پھر مکمل قانونی وستاویزات کے ذریعے افغانستان آئے تھے۔ کابل میں الفلاح نامی این جی او میں ملازمت اختیار کر لی تھی۔ طب کے شعبے سے نسلک افراد کو قید میں نہیں رکھا جا سکتا مگر ڈاکٹر ایمن سعید کو گرفتار کر کے گوانہتا موبے پہنچا دیا گیا۔ ان کو انتہا ڈھنی اور جسمانی تشدید کا نشانہ بنایا گیا کہ آخر میں پاگل ہو گئے۔ ان کی طرح اور بھی بہت سے قیدی پاگل ہو گئے تھے۔ مگر ان کو سزا باقاعدگی کے ساتھ دی جاتی تھی حالانکہ پاگل اللہ تعالیٰ کے حساب کتاب سے بھی مستثنی ہیں۔

افغانستان کا وفر:

ایک دن مجھے اکیلے تیش کے نام پر ایسی جگہ لے جا کر باندھا گیا جو میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ میں کسی تیش کا رکھنا انتظار کرنے لگا مگر دیکھا کہ چند افغان باشندے آئے، سلام کیا اور ادھر پڑی کر سیوں پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنا تعارف افغان حکومت کے نمایندوں کے طور پر کرایا، ان میں قندھار اور جلال آباد سے تعلق رکھنے والے دو پختون، باتی، پنجابی تھے۔ قندھاری نے پانی کا گلاس دیا پھر سوالات پوچھنا شروع کر دیئے۔ سوالات وہی تھے جو امریکی پوچھتے تھے جبکہ میرے جوابات میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس دوران ایک امریکی عورت آئی جو بار بار ان افراد کے کان میں سرگوشی کرتی اور ان کو کچھ لکھا ہوا دیتی، میں نے حقیقت چانتا چاہی اور ان سے پوچھا کہ آپ کے آئے کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے

جواب دیا کہ ہم آپ کی رہائی چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کا عمل اور روایہ یہ ثابت نہیں کرتا کہ آپ میری رہائی چاہتے ہیں۔ جواب اب سب خاموش رہے، میں بھی سمجھ گیا کہ وہ بے بس ہیں کیونکہ بات کرتے وقت بھی وہ چوروں کی طرح ادھر ادھر دیکھتے تھے۔ میں نے ان پر اعتماد بھی نہیں کیا کہ یہ ہمارے ملک کے حکومتی نمائندے ہوں گے کیونکہ ان کی صلاحیتیں انتہائی کم معلوم ہوتی تھیں۔ ان کے بارے میں دوسرے قیدیوں کے بھی میری طرح کے تاثرات تھے۔ بعض قیدی تو ان کے سوالوں کا جواب گالیوں کی صورت میں دیتے تھے۔ وہ تحقیقیں میں امریکیوں سے بھی سخت تھے اور خود کو لا علم ظاہر کرتے تھے۔ چونکہ امریکیوں کے لیے کام کرتے تھے اس لیے قیدی بھی ان کے ساتھ زی نہیں برتنے تھے۔ چند دن بعد 16 جون 2004ء کو مجھے واپس چوتھے کمپ منتقل کر دیا گیا جہاں مجھے ایک سال اور چند مہینے رکھا گیا۔

چشم دید و اعات:

مجھے تین سال چھ مہینے تک مختلف کمپوں اور قید خانوں میں رکھا گیا۔ اس دوران ایسے ایسے واقعات دیکھے جو دل دہادینے والے تھے اور جنہیں اب بھی یاد کرتا ہوں تو روتا آ جاتا ہے۔ امریکی فوجی قیدیوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھتے تھے، وہ مسلم انسانی و بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی تھی۔ 2003ء میں رمضان المبارک میں دو دن باقی تھے، امریکی آئے اور کہا کہ رمضان المبارک کے احترام میں آپ کو دگنا کھانا دیا جائے گا۔ اظماری کے وقت جوں اور کھجوریں بھی دی جائیں گی۔ یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات تھی مگر ان کی لیے بات اعلانات تک محدود رہی۔

رمضان تیج کی وابستہ:

صحیح ہوتی تو ان کا سلوک اور بھی برا ہو گیا۔ بلاک کے آخری حصے میں تین قیدیوں نے فوجیوں کے ساتھیہ ائی کی، ایک قیدی نے فوجی پر پانی ڈالا، اس کی سزا پورے کمپ کے قیدیوں کو رمضان تیج واپس لے کر دی گئی اور فوجیوں نے مزید وحشیانہ سلوک شروع کر دیا۔

ہم نے بارہا امریکی فوجی افسروں سے کہا کہ صرف ایک شخص کی سزا باقی تمام قیدیوں کو کیوں دی جا رہی ہے؟ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور رمضان المبارک کا احترام ممکن بنائیں۔ جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم فوجی ہیں اور ہمارا قانون یہ ہے کہ ایک آدمی کی سزا سب کو دیتے ہیں۔ یہ ایسا جھوٹ تھا جسے ہم خوف کے بارے جھوٹ نہیں کہہ سکتے تھے۔

قرآن کریم کی بے حرمتی اور بائیکات:

ایک مرتبہ ایک بد شکل خاتون فوجی نے قیدیوں کی تلاشی کے دوران قصد اور مرتبہ قرآن مجید کو زمین پر پھینکا۔ قیدیوں نے اس بے حرمتی پر خاتون فوجی کو سزا دینے کا مطالبہ کیا مگر امریکی فوجی حکام نے اس مطالبے پر کان نہیں دھرا۔ پہلے کمپ کے قیدیوں نے اس ظلم پر ہڑتاں شروع کر دی جس کا دوسرا ہے اور تیسرا کمپ کے قیدیوں نے بھی ساتھ دیا۔ قیدیوں نے نہانے کی جگہ جانے، کپڑے بد لئے اور کھیل و تفریج کے اوقات میں باہر نکلنے کا بائیکات کر دیا جس پر بارہ امریکی فوجیوں نے قیدیوں پر بیخار کر دی۔ وہ قیدیوں کو کپڑوں کیڈ کران کی موٹچیں، ڈاڑھی اور ابر و صاف کر دیتے، کسی کی آدمی ڈاڑھی چھوڑ دیتے اور کسی کی ایک موٹچھ۔ اس ظلم و زیادتی پر باتی قیدی اللہ اکبر کے نفرے لگاتے جبکہ بعض فوجیوں کو گالیوں پر در بد دعاوں سے نوازتے۔

سعودی باشندے پر بھیان تشدد:

اس دوران افواہ آئی کہ امریکی فوجیوں نے سعودی عرب کے مشعل نامی قیدی کو اس قدر تشدد کا نشانہ بنا�ا کہ انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا ہے۔ اس افواہ سے حالات مزید تکمیں ہو گئے۔ اب فوجی بڑے بڑے مضبوط ڈنڈے اٹھائے پھرتے تھے۔ ایسی گاڑیوں کا گشت مختلف کیمپوں میں شروع ہوا جن پر تو پیس اور مشین گنیں نصب تھیں۔ عصر کا وقت تھا جب عربی، انگریزی اور اردو میں اعلان ہوا کہ مشعل کی حالت نازک ہے، ان کی صحت یا بے کے لیے دعا کریں۔ اس اعلان سے قیدی بھی خاموش ہو گئے اور اس تھس میں بتا ہو گئے

کہ اصل حقیقت کیا ہے؟ اور پھر ہمارا ہم خیال ایک قیدی جو اسپتال سے آیا تھا، نے بتایا کہ میں نے مشعل کو دیکھا ہے، اس کی حالت واقعی خراب ہے اور پھر دو تین مہینے بعد پڑتے چلا کر مشعل پر فائی کا حملہ ہو گیا ہے اور اس کے تمام اعضاہ شل ہو گئے ہیں۔ امر کی فوجیوں نے مشعل کو تشدید کا نشانہ کیوں بنایا تھا اس کا، میں آخر تک پڑتے نہ چل سکا۔ مشعل نے دوسال چھ مہینے اسپتال میں گزارے، اس کو دبیل چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا تھا، اتنا سخذ در تھا کہ بغیر کسی سہارے کے نہ کھڑا ہو سکتا تھا اور نہ بیٹھ سکتا تھا۔ آخر میں اسے سعودی حکومت کے حوالے کر دیا گیا۔

چالیس دن تک سونے نہ دیا:

پہلے پہل ہر کمپ میں کھانے اور پہل وغیرہ کی اچھی خاصی مقدار ملتی تھی۔ پھر ہر کمپ کے انچارج نے عجیب رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ ہوایوں کہ ایک فوجی بار بار ہر قیدی کے پاس جاتا اور کھانے کا مہنگا پسندنا پسندنا اور کی بیشی کے بارے میں پوچھتا اور ایک لوت بک میں تحریر کرتا جاتا۔ نتیجہ اس عجیب کام کا یہ لٹلا کہ کھانے پینے کی جو چیزیں قیدیوں کو پسند نہیں تھیں اس کی مقدار بڑھادی گئی اور جس چیز کے بارے میں پسندیدیگی کا انکھار کیا گیا اس کی مقدار کم کر دی گئی۔ خوراک کی اچھی چیزیں غائب ہو گئیں جبکہ ناکارہ اشیاء خورونوش میں اضافہ کر دیا گیا۔ وقت کے ساتھ مغلات بڑھتی گئیں۔ آغاز میں تیتیش یا ریڈ کراس والوں سے ملنے یا ڈاکٹر کے پاس لے جاتے وقت ایک پئی سے باندھ جاتا جو بعد میں زنجیر میں تبدیل ہو گیا اور پھر زنجیر سے پاؤں اور ہاتھوں کو بھی باندھا جانے لگا۔ ہھڑی ایک کی بجائے تین تین پہنائی جانے لگیں۔ پہلے آنکھیں بند نہ کی جاتی تھیں۔ پانچویں کمپ میں آنکھوں پر پہنی باندھنا اور کافلوں میں روئی ٹھوستہ عامی بات بن گئی تھی، پہلے نہیں کتابوں پر کوئی پابندی نہیں تھی جو بعد میں عائد کر دی گئی۔ اقتصادیات، ریاضی، بیوالوگی، سیاست، تاریخ اور جغرافیہ کے موضوع پر بنی کتابیں بھی بند کر دی گئیں۔ نیند پوری نہ لینے دی جاتی۔ ملا

اخوند کو 40 دن اور 40 رات تک نیندہ کرنے دی گئی۔ ان کو سخت سردوی میں بھی ایر کنڈ یعنی کرے میں رکھا گیا۔

جنیو اجا کراپے حقوق حاصل کرو:

فوچی گئی کے خالی کنسٹر بجاتے تاکہ قیدی سونہ سکیں۔ قیدیوں کو خصوصاً عرب قیدیوں کو موڑ لائیجی میں بخا کر فل اسپیڈ کے ساتھ چلائی جاتی۔ رفتہ رفتہ علاج کی سہولتیں کم ہوتی گئیں۔ ڈاکٹر اپنی مراحل میں آزاد تھے اور مریض قیدیوں کو دوایاں بھی دیتے تھے مگر رفتہ رفتہ ان پر بھی پابندیاں عائد ہو گئیں اور قیدیوں پر توجہ بالکل نہ دی جاتی۔ خون کے کینسر میں بدلنا قدمہار کے ولی محمد نامی قیدی کی تکلیف سے جھینیں لکل جاتیں مگر اس کے پاس کسی معانع کو نہیں بھیجا گیا، نتیجتاً اس کا سارا جسم سوچ گیا۔ ہم مجبور ہو گئے کہ اس کے لیے احتجاج شروع کریں۔ ہم نے زور زور سے فخرہ بھیکر بلند کرنا شروع کر دیا اور قید خانے کی آہنی دیواروں کو مار کر شورچانا شروع کر دیا جس سے فوجیوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ فوجیوں نے اپنے افسروں کو بلا یا، ترجمان کو لا یا گیا، پھر جا کر مریض کو کلینک لے جایا گیا جہاں اس کے مرض (بلڈ کینسر) کی تشخیص کی گئی۔ کینسر نے اس کے جگر کو بھی متاثر کیا تھا۔ اگر ولی محمد کا بر وقت علاج ہوتا تو اس کا مرض اتنا ہے بڑھتا۔ ہم بھی کبھار جنیو اکتوبر کے تحت اپنے حقوق یاد دلاتے تو امریکی فوجی کہتے کہ جنیو اجا کراپے حقوق حاصل کرو، یہ امریکا ہے۔

امریکی فوجیوں کی صدر بیش کو گالیاں:

ہم سے تفہیش کے دوران کوئی با مقصد جواب نہ پاتے اور تشدید کر کے تھک جاتے تو آخر میں خود اپنے صدر بیش کو گالیاں دینا شروع کر دیتے۔ بھی میڈیا کے لوگ یا حکومتی عہدیدار تماشا دیکھنے آتے تو سارے کیپوں کا محایہ کرانے کی بجائے ان کو صرف 4th Camp کا دورہ کرایا جاتا کیونکہ اس کمپ کے حالات اچھے تھے۔ ایسے وفود کو دکھانے کے لیے نمائش مجھیں بھائی گئی تھیں۔ اکثر مریضوں کو دورے کے اوقات میں نشہ دیا جاتا تھا تاکہ وہ سوئے

گواہت ناموں بے کی کہانی مثلا ضعیف کی زبانی

رہیں اور امر کی وحشیانہ سلوک کا بجاہ اُنہوں پھوڑ سکیں۔ ایک مرتبہ چوتھے کمپ کے دو قیدیوں نے ایک وفد کے ارکان کو بتایا کہ یہ نہایتی کمپ ہے آپ اگر حقیقت جانتا چاہتے ہیں تو پہلے، دوسرے، تیسرا، پانچویں اور ایکمکپ کے قیدیوں اور میضوں کا حال دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم انصاف چاہتے ہیں، ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہمیں عدالت میں پیش کیا جائے تاکہ پتہ لگے کہ کتنے بے گناہوں کو دہشت گردی کے کھاتے میں سخت ترین عذاب سے گزر ا را جا رہا ہے۔ امر کی فوج نے بعد میں شکایت کر لے والے بیش افراد کو سزا کا مستحق قرار دے کر ان کو چوتھے کمپ سے باہر نکالا اور ساری مراعات اور سہولیات واپس لے لیں۔

بوسنیائی قیدی:

گواہت ناموں میں بوسنیا سے تعلق رکھنے والے شیخ جابر، ابو شیما محمد، مصطفیٰ اور الحاج بھی قید تھے جو بہت ہی مظلوم تھے۔ ان کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ گواہت ناموں بے کیوں لاایا گیا ہے اور ان کا جرم کیا ہے؟ ابو شیما کو تو سزا کے لیے پانچویں کمپ بھی لے جایا گیا۔ شیخ جابر نے مجھے بتایا کہ ہم نے ہرتفیش کار سے اپنا قصور پوچھا مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ بعض کہتے کہ آپ امر کی مفادات کے لیے خطرہ ہیں۔ ہم شہوت مانگتے تو کہتے کہ شہوت ضروری نہیں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ نے ماضی میں کچھ کیا ہو۔ ہو سکتا ہے آپ مستقبل میں امر کی تنصیبات پر حملہ کریں اور امر کیوں کو فقصان پہنچا کیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان پانچوں بوسنیائی جائیسوں نے زندگی میں نہ کبھی افغانستان دیکھا تھا اور نہ کسی تنظیم سے ان کا تعلق تھا۔ ان کا گناہ صرف یہ تھا کہ انہوں نے سربوں کے خلاف جہاد کیا تھا۔

دو بے بس حکمران:

میں نے بھیت افغان سفیر کی بار اقوام متحده اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے رابطہ کیا تھا کہ افغانستان میں طالبان قیدیوں کے ساتھ رواز کئے جانے والے سلوک کا نوش لیا جائے اور بے گناہ افراد کو رہا کیا جائے۔ مجھے ہر بار یقین دہانیاں کرائی گئیں۔ اپنی گرفتاری

سے قبل خامد کرزی اور جزل پر ویز مشرف دونوں سے مسلسل رابطہ رکھا اور ان سے مطالبات کیا کہ افغانستان کے شمال میں جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو رہا کیا جائے اور ان سے وحشیانہ سلوک کو روکا جائے مگر دونوں بے بس نظر آتے تھے۔

پاکستانی الہکاروں کا مک مکا:

غسان جو عرب تھا، نے بتایا کہ میں اپنے چند ساتھیوں سمیت لاہور کے ایک ہوٹل میں کراچی کے عوض کرہ لے کر اس انتفار میں بیٹھا تھا کہ کسی طریقے سے پاکستان سے باہر نکل سکوں۔ پاکستان سے باہر جانا آسان تھا مگر اس کے لیے رقم کی ضرورت تھی جو میرے پاس نہیں تھی۔ باہر بھجوانے کا کام پاکستانی الہکار ہا قاعدہ مک مکا کر کے کرتے تھے۔ جب سودا طے نہ ہوا تو انہی الہکاروں نے چھاپے مار کر گرفتار کر لیا۔ انہوں نے جب چھاپے مارا تو ہمارے پاس بزریاں کاٹنے والی چھریاں تھیں جبکہ ان کے پاس بھاری اسلحہ تھا۔ اس کے باوجود ہم نے خوب مراجحت کی، ہماری مراجحت دیکھ کر الہکاروں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں، ہم نے کہا کہ نہیں، آپ کے ساتھ امریکی ہیں اور ہم خود کو امریکا کے خواں نہیں کریں گے۔ الہکاروں نے کہا کہ آپ کو امریکا کے حوالے کرنے نہیں بلکہ پوچھ چکھ کرنے کے لیے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ہم نے خدا اور رسول کے واسطے دیئے اور کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور عرب چاپدین ہیں مگر وہ نہیں مانے۔ محاصرہ کر کے جب انہوں نے ہمیں گرفتار کر لیا تو با اثر دکھائی دینے والے چند افراد آئے اور قسم اٹھا کر کہا کہ ہم لٹکر طیبہ کے لوگ ہیں اور آپ کے ساتھی ہیں، آپ مراجحت نہ کریں۔ پھر ان پاکستانی الہکاروں نے پہلے ہمیں لوٹا اور آپ کے امریکی فوجوں کو لایا گیا کہ آئیں دیکھیں، ہم کس طرح آپ کے لیے مخلصانہ کوششیں کر رہے ہیں۔

پاکستان پر تنقید کا جرم:

دو اور افراد جو مصنفین تھے اور جلال آباد سے ان کا بنیادی تعلق تھا، پاکستان میں اپنے

ذاتی مکانات میں رہائش پذیر تھے۔ ان میں ایک دینی کتابوں کے مصنف عبدالرحیم مسلم دوست اور دوسرے اگریزی زبان کے استاد بدرالزمان بدر تھے۔ پاکستانی الہکاروں نے ان دونوں افغان مہاجریوں کو گرفتار کر کے امریکا کے حوالے کر دیا۔ ان دونوں کا طالبان سے کوئی واسطہ نہ تھا، یہ دونوں تنہ میئنے تک ایک پاکستانی ادارے کی تحويل میں رہے پھر ان کو امریکی تحويل میں دے دیا گیا۔ ان دونوں کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ ظلم نہیں دیکھ سکتے تھے اور پاکستان پر تقدیر کرتے تھے۔

امریکیوں کی تحقیق:

ایک دن مجھے تحقیق کے لیے لے جایا گیا پچھنئے تفیش کاروہاں آئے ہوئے تھے جن کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک تحقیقی کالی خاتون بھی ساتھ تھی اور ایک پٹھان ترجمان بھی ساتھ تھا، میز پر پینے کا پانی رکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک نقشہ میز پر رکھا جس کی ابتداء افغانستان سے ہوتی ہوئی امارات اور امارات سے سوڈان اور سوڈان سے یورپ اور انتہاء جنوبی امریکا تک پہنچتی تھی، مجھ سے کہا گیا کہ اس راستے افغانستان سے سونے کی فیر قانونی تجارت ہوتی رہی ہے اور آپ بھی اس میں شریک تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ افغانستان میں سونے کی کان اور افغانستان کی سونے کی برآمد ثابت کریں تو میں سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ بہندہ تھے اور بار بار اصرار کرتے رہے کہ آپ اس دھنے میں (جس کا کوئی وجود نہیں) شامل تھے۔

ان کا ایک اور سوال یہ تھا کہ آپ ہر میئنے پشاور کس لیے جاتے تھے؟ یہ تفیش کا خصوصی طور پر امریکا سے گواہنا موبے آئے تھے لیکن یہ بے عقل تھے جو ثابت و توثیقی سوال میں فرق نہیں کر سکتے تھے اور یا تو پھر وہ نہیں بے وقوف اور بچھتے تھے، اس لیے اس طرح کے بے ربط سوالات کرتے تھے۔

مجھ سے افغانستان کی تمام سیاسی مذہبی تکمیلوں، معدنیات جیسے تیل، گیس، کرومیت،

سنگھر مر، ہیرے اور جواہرات نیز تمام مدارس اور علماء کے بارے میں پوچھا گیا۔ اسی طرح میرے سامنے مخفف ممالک میں علماء کی جمیل کی تصویریں لائی گئیں جس میں صد سالہ دارالعلوم دیوبند کا فرنٹس، پشاور میں قطبیہ کا جلسہ منصوريہ میں اور لیبیا میں علماء کرام کے اتحاد اور جلسہ کی تصاویر نمایاں تھیں۔ مجھ سے ان تصویریوں میں دکھائے گئے مقررین اور دیگر شریک علماء کے متعلق الگ الگ پوچھا گیا، ان میں ایسے مدارس اور علماء بڑی تعداد میں موجود تھے جن کو میں نے کبھی نہ دیکھا نہ سن اور نہ ہی ان مدارس کا نام معلوم تھا۔ یورپیں کی افزودگی کا سوال بھی پا رہا مجھ سے کیا جاتا رہا۔

”محبورستان“:

ولی محمد صراف، عبد الرحمن نورانی اور بعض دیگر ایسے بڑے بڑے تاجر جو پشاور یا اسلام آباد میں رہتے تھے اور بہت مالدار تھے، سے پاکستانی الہکاروں نے بھاری رقم لوٹی اور پھر امریکا کے ہاتھ فروخت کر دیا جواب بھی گوانہ ناموبے میں زندگی کی قبروں میں پڑے ہیں۔ عرب مجاہدین کے ساتھ جو سلوک پاکستان میں ہوا وہ گوانہ ناموبے میں بھی نہیں ہوا۔ گوانہ ناموبے کے قیدی پاکستان کو ”محبورستان“ کہہ کر پکارتے۔

ہر روز نئے نئے سوال:

گوانہ ناموبے میں تفتیش کے مراعل بڑے عجیب تھے۔ تفتیش کا محور کوئی خاص ایشو نہیں تھا۔ تفتیش کاروں کے ہدف کا پتہ چلتا اور نہ اس بات کا پتہ چلتا کہ ان کو تلاش کس کی ہے؟ ہر روز نئے نئے سوال پوچھتے جاتے، کبھی کبھی پرانے سوالات دہراتے جاتے، جرم کی باتیں پیچھے رہ جاتیں۔ ایک بار تفتیش کرنے والے نے کہا کہ یمن میں مسجدی جہاز تباہ کیا گیا تھا جس میں گیارہ امریکی مہدیدار ہلاک ہوئے تھے۔ اس واقعے میں آپ کا ہاتھ تھا اور آپ اس وقت یمن میں موجود بھی تھے۔ میں نے کہا میں یمن کیسے گیا تھا؟ اور کس راستے سے گیا تھا؟ اس نے کہا کہ ایران سے قطر اور قطر سے یمن گئے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ کو

بھری جہاز کے آنے کا وقت اور جانے کا وقت معلوم تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا میں دھماکہ خیز مواد اپنے ساتھ لے کر گیا تھا یا نہیں؟ اس نے کہا معلوم نہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کو بھری جہاز کے لنگر انداز ہونے کا وقت اور جگہ معلوم نہیں تو میں کس طرح نامعلوم بھری جہاز میں ایران، قطر اور پھر یمن گیا؟ اگر کوئی یہ ثابت کرے کہ میں نے آج تک ایران، قطر یا یمن دیکھا ہے تو میں آپ کا ہر الزام تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔

آپ کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہوگی:

شاید یہ سارے تفتیش کارہم سب قیدیوں کو انتہائی سادہ سمجھتے تھے اور ہم سے ایسے پیش آتے چیزے ہم بچے ہوں۔ ایک دن چھوٹے قد کے موٹے شخص نے آ کر انتہائی بد تمیزی سے بات شروع کی، میرے جوابات پر طنزیہ انداز میں مسکرا بھی دیتا اور آخر کار اس نے وہ سوال پوچھا ہی لیا جو اس کے دل میں معلوم نہیں کب سے جاگریں تھا اس نے پوچھا یہ مسلمان آخر کب ہمارے سامنے سرتسلیم خم کریں گے؟ اس سوال سے میرا خون کھول اٹھا مگر میں نے حوصلہ کر کے جواب دیا کہ آپ کی یہ خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کا ایک گروہ آپ کے خلاف امام مهدی (علیہ السلام) کے ظہور تک جہاد کرے گا اور آخر میں غالبہ مسلمانوں کا ہی ہوگا۔ اس نے پوچھا یہ گروہ کس کا ہوگا؟ طالبان کا یا القاعدہ کا؟ یا کسی اور کا؟ میں نے کہا کہ یہ مجھے معلوم نہیں مگر یہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے اہداف تک اس قدر آرام سے نہیں پہنچیں گے۔ اس نے لمبی سانس لی اور کہا کہ کاش یا امام مهدی جلد سامنے آئیں اور ہم ان سے نہیں تاکہ مسلمانوں کی یہ آخری امید بھی ختم ہو۔ میں نے کہا کہ ہمیں بھی ان کے ظہور کا شدت سے انتظار ہے۔

بھوک ہڑتاں:

ایک مرتبہ قیدیوں نے بھوک ہڑتاں شروع کر دی۔ بعض قیدی کھانا نکھاتے مگر پانی پینتے تھے، بعض نے کھانا پینا دونوں ترک کر دیا۔ عرب بھائیوں نے تادم مرگ بھوک ہڑتاں

شروع کی۔ اس طرح 275 افراد کھانے سے محروم تھے۔ وہ صرف احترام انسانیت چاہتے تھے۔ بھوک ہر ہاتال 26 روز سے جاری تھی، ہر پانچ میں سے چار قیدیوں نے بھوک ہر ہاتال میں حصہ نہیں لیا کیمپ کے انچارج جزل نے قیدیوں کو یقین دہانی کرائی کہ جنیوا کنوشن کی بعض شقوں کے تحت قیدیوں کو حقوق دیئے جائیں گے مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ قیدی بھوک ہر ہاتال ختم کر دیں کیمپ کے انچارج جزل نے شیخ شاکر جن کے پاس برطانوی شہریت تھی اور جن کو انگلش زبان پر عبور حاصل تھا، کو ہر قیدی کے پاس لے جاتے اور ان کے ذریعے قیدیوں کو یقین دہانیاں دے دے کر کھانا کھانے پر راضی کیا جاتا۔ قیدیوں نے ہر ہاتال ختم کی اور کھانا کھانا شروع کیا۔ قیدیوں کی جانب سے چھر کنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے قیدیوں کے مطالبات ترتیب دینے اور امریکی حکام کے سامنے پیش کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس کمیٹی میں شیخ شاکر، شیخ عبدالرحمن، شیخ غسان، شیخ جابر، شیخ ابو علی اور میں (عبد السلام ضعیف) شامل تھا۔

مذاکرات اور ایمیس شیطان:

مذاکرات کے لیے دو مرتبہ کوشش کی گئی مگر بار آور ثابت نہ ہو سکی۔ آخر کار تیری مرتبہ 7 اگست 2005ء کو کمپ کے داخلی دروازے کے پاس اجلاس ہوا جس میں کمیٹی کے ہم چھ ارکان کمپ کے انچارج جمب گارز، ایک کمائٹر اور ایک دوسرا شخص شامل تھا، بمب گارز بہت پالاک اور عیار تھا، قیدیوں کو کہتا تھا کہ میں ایمیس (شیطان) ہوں۔ اس نے اجلاس کی، ابتداء میں ہی کہا کہ میں کمپ کو پر امن اور مسئللوں سے پاک دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ قیدی آپ (کمیٹی کے چہمباران) کی بات مانتے ہیں، میں آپ کے فضلوں کا احترام کروں گا، میں نے امریکی وزیر دفاع ڈونلڈ رمز فلیٹ سے بات کی ہے تاکہ آپ کو جنیوا کنوشن کے مطابق حقوق دیئے جائیں البتہ اس بات کا فیصلہ ہم کریں گے کہ کون سے حقوق دیئے جائیں اور کون سے نہ دیئے جائیں۔ ہم نے انسانی حقوق کی خلاف

ورزیوں، مذہبی شعائر کی بے حرمتی اور امریکی فوجیوں کے غیر قانونی اور غیر انسانی اقدامات کی شکایت کی۔ ہم نے کہا کہ چار سال تک دنیا کو درغلایا گیا کہ گواستانا مو بے میں دہشت گردوں کو رکھا گیا ہے، یہ سلسلہ اب بند کیا جائے۔ خود کو شیطان کہنے والا کیپ کا انچارج سب کچھ مانتا اور کہتا کہ جو ہوا سو ہوا۔ آئندہ آپ کے ساتھ انسانی سلوک کیا جائے گا مگر اس کے یہ سارے وعدے جھوٹ ثابت ہوئے۔ اجلاس میں شرکت کرنے والے قیدیوں کو باتی قیدیوں سے الگ کر دیا گیا اور ظلم و ستم کا سلسلہ مزید دراز کر دیا گی۔ بھوک ہڑتال پھر شروع کر دی گئی، تین سو سے زائد قیدی بھوک ہڑتال کے لیے تیار ہوئے، میں قیدیوں نے تو پاکاعزم ظاہر کیا کہ وہ نادم مرگ بھوک ہڑتال جاری رکھیں گے اور امریکیوں پر مزید اعتماد نہیں کریں گے۔ امریکا کے اوپر بداعتمادی کا یہ سلسلہ میری رہائی یعنی 11 ستمبر 2005ء تک چاری رہا۔

قیدیوں کی استقامت:

بھوک ہڑتال کے باعث ہسپتال مریضوں سے بھر گیا، ان کو بے ہوشی کی حالت میں دو دی جاتی، قیدی ہوش میں آتے تو ڈرپ وغیرہ اتار کر پھینک دیتے اور دوائیں کھانے سے انکار کر دیتے، انہی کی جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے اور مرنے تک بھوک ہڑتال جاری رکھنے کا عزم ظاہر کرتے۔ پھر وہ مرحلہ بھی آیا جب پانچ ڈاکٹروں نے مل کر بے ہوش مریضوں کو نختوں میں پاپ لگا کر خوراک دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ سننے میں آ رہا ہے کہ گواستانا مو بے میں حقوق کے لیے قیدیوں کی ہڑتال کا یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔

طالبان کے شہر میں پکڑے جانے والے افغانی:

امریکا نے ان مخصوص افغانوں کو بھی طالبان اور القاعدہ کے کھاتے میں پکڑا تھا جن کا دونوں سے کوئی تعلق نہیں رہا تھا، مثلاً ان سب افغانوں کو پکڑا گیا جنہوں نے کسی طالب یا مجاہد کو پناہ دی، ان کو کھانا کھلایا یا کسی مشہور طالب مجاہد کا نام کسی نے لیا یا کسی نے دیکھا۔ ایک

افغان کو اس لیے پکڑا گیا کہ اس نے مجاہدین جیسا کوٹ پہنچا، ایک کو جیب میں ٹھیکون سیٹ رکھنے پر جبکہ ایک چوہا ہے کو دور میں رکھنے پر پکڑا گیا اور ان سب کو بعد میں جنگی مجرم ثابت کیا گیا۔ اکثر بھائی مجھے تفصیلی روئدا دیاں کرتے جس پر مجھے بہت افسوس ہوتا۔ افغان قیدیوں میں طالبان، مجاہدین، موجودہ افغان حکومت کے الہکار، موچی، لوہار، چوہا ہے، صحافی، صراف، دکاندار، آئندہ مساجد حتیٰ کہ امریکا کے اپنے ترجمان بھی شامل تھے۔ عرب بھائیوں میں بھی ایسے تھے جو پاکستان یا پاکستان کی طرح دوسرے ممالک نے امریکا کے عوض فروخت کیے تھے۔ پختون علاقوں کے وہ افراد جو عرب ممالک میں محنت مزدوری کرتے تھے اور ملن واپس آئے تھے، ان کو بھی پکڑا گیا تھا۔ ان بے چاروں کے دیزوں کی مدت بھی ختم ہو گئی مگر ظالم امریکیوں نے ان کو نہیں چھوڑا۔

وہ جو امریکہ کے جاسوس بن گئے اور مرتد ہوئے:

بعض قیدی مجبور ہو کر امریکیوں کے لیے ہماری جاسوسی بھی کرتے تھے، جس پر ہمارے ساتھی ان قیدیوں سے نفرت کا اظہار کرتے اور ان سے بات نہ کرتے، ان پر تھوکتے۔ ان میں فدا، زرمت کے سردار اور کنٹر کے انور شامل تھے جو بعد میں مرتد ہو گئے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی بے حرمتی کیا کرتے تھے۔ یہ شودنا میں کاغذ کے لوگ تھے جو امریکیوں کے لیے کام کرتے تھے۔ تیر کے کمپ میں عراق کے علی، شاکر، ارتقان، عبدالرحیم اور محمد ایسے ہی ملکوں کو لوگ تھے۔ تین افغانوں پر بھی جاسوسی کا شک تھا۔ یہ افغان اور عرب جب ہمارے قریب آتے تو ہم اپنی زبانوں پر کنٹروں کر لیتے۔ ان کی سرگرمیوں سے ہر قیدی شک تھا، یہ جب ہم سے دور ہوتے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجالاتے۔ آخر میں یہ لوگ بہت ذلیل ہوئے کیونکہ ان کی معلومات درست نہ تھیں اور امریکیوں کے لیے ناقابل اعتماد بن گئے۔ یہ جاسوس بھائیوں کی طرح عبادت کرنے لگے، پھر بھی امریکیوں کو ان پر یقین نہیں رہا۔

گوانٹانامو بے میں دنیا کا کوئی قانون نہیں چلتا:

گوانٹانامو بے میں وقت کے فرعون کے مظالم سینے والا ہر شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ زندان ہر اس مسلمان کے لیے بنایا گیا ہے جو امریکی پالیسیوں کا مخالف ہے۔ جہاں امریکا جو چاہتا ہے، کر سکتا ہے۔ دہشت گردی کے نام پر گرفتار ہونے والوں کے ساتھ امریکا ہر غیر قانونی سلوک کر سکتا ہے، کیونکہ گوانٹانامو بے کے جزیرے میں دنیا کا کوئی قانون نہیں چلتا۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ صدر بیش نے دنیا کے سامنے جو جھوٹ بولوا وہ محض دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے تھا۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ گوانٹانامو بے کے اکثر قیدی بے گناہ ہیں۔ بہت سے ایسے ممالک جو امریکی اتحادی ہیں، اپنے کیے پر پیشان ہیں، ان کے سامنے امریکا کا بھی انک چدہ بے نقاب ہو چکا ہے مگر مجبور ہیں۔ یہ ممالک اپنی مجبوری کے تحت امریکی مظالم پر خاموش ہیں۔

گوانٹانامو بے کا امریکیہ کو نقصان:

میں سوچتا ہوں، گوانٹانامو بے کے بعد نام زمانہ حقوقیت خانوں کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ اس سے امریکا کو کیا فائدہ ہے؟ میری نظر میں فائدہ کوئی نہیں سراہ امریکا کا اپنا نقصان ہے۔ یہ گوانٹانامو بے امریکی ماتحت پر لٹک کا ٹککہ ہے مگر اس کا مکمل اور اک دنیا اور خود امریکی عوام کو مستقبل میں ہو گا۔ صدر بیش نے ثابت کر دیا ہے کہ احترام آدمیت اور انسانی حقوق صرف طاقتور اقوام کے لیے ہیں اور مظلوم مسلمانوں کو کسی قسم کا حق حاصل نہیں۔ امریکا نے مسلمانوں کو انسانی حقوق کا غاصب اور قانونی مجرم ثابت کرنے کی کوشش کی مگر خود گوانٹانامو بے کی وجہ سے دنیا بھر میں امریکا کو انسانی حقوق کا غاصب خصوصاً مسلمانوں کا دشمن سمجھا گیا۔ دنیا نے جان لیا کہ امریکا ریاستی اور بین الاقوامی قوانین کو پاؤں تلے روشنے والا ملک ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں امریکا کی نفرت بڑھی ہے، یہ ایسے نکات ہیں جن کی وجہ سے ہر گز رتے دن کے ساتھ امریکی وقار کو ٹھیس پہنچ رہی ہے۔ گوانٹانامو بے

گوانٹانامو بے کی کہانی ملا ضعف کی زبانی

کی وجہ سے امریکا نے یہاں کے ہر قیدی کو اپنادم غن بنا لیا، قیدیوں میں سے ایسے بھی تھے جو امریکی پالیسیوں کے خلاف نہ تھے مگر جب امریکی مظالم انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تو وہ بھی امریکا کے سخت دشمن بن گئے۔

گوانٹانامو بے میں پیدا ہونے والے ہیرد:

گوانٹانامو بے کے زندان کی وجہ سے امریکا نے "شخصیات" پیدا کیں، بہت سے ایسے لوگ جن کو کوئی پہچانتا بھی نہ تھا گوانٹانامو بے کی وجہ سے وہ لوگوں کے ہیرد اور رہبر بن گئے۔ اب اگر یہ ہیرد امریکا کے خلاف کچھ کرنا چاہیں تو ایک اشارے پر بہت کچھ کر سکتے ہیں اور ہر ایک شخص باقاعدہ اپنی موثر جماعت بناتا ہے۔ کہتے ہیں احق دوسروں کو اتنا نقصان نہیں پہنچانا جتنا اپنے آپ کو۔ اگر دہشت گردی کا مطلب لوگوں کو خوفزدہ کرنا ہے تو سب سے بڑا دہشت گرد تو خود امریکا ہے جس نے گوانٹانامو بے کی صورت میں مخصوص اور بے گناہ مسلمانوں کو اپنے خالماں سلوک سے ڈرانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔

افغان حکومت کا اپنی:

11 مئی 2004ء رمضان المبارک کو مجھے تفتیش کے لیے لے جایا گیا، یہ جگہ میرے لیے نہ تھی، جس کرے میں مجھے بخایا گیا، وہاں ایک کند پینڈ اور ٹوپی بھی لگا ہوا تھا۔ خلاف معمول میرے ہاتھ پاؤں کھولے گئے۔ وہاں دو امریکی تفتیش کار تھے جبکہ تیرے نے امریکا کے افغانستان میں قائم سفارتخانے کے الہکار کے طور پر اپنا تعارف کر لیا۔ افغان باشندے نے خود کو افغان حکومت کا اپنی بتایا مگر مجھے یقین نہیں آیا، باقی شروع ہو کیں تو ان کا رو یہ براشا کرتے تھا۔

مشروط رہائی کا حلف نامہ:

انہوں نے مجھے کھانا کھلایا جس کو میں صحیح معنوں میں کھانا کھوں گا جو چار سال بعد مجھے نصیب ہوا تھا۔ میں نے حد سے زیادہ کھانا کھایا، کھانے کے ساتھ فروٹ اور کوکنڈر کی بھی

دی گئی۔ ان افراد نے وعدہ کیا کہ وہ میری رہائی کے لیے بھر پور کوشش کریں گے مگر اس کے بعد بھی ایک سال تک گواہت ناموں بے میں رہا۔ میں رہا ہونا چاہتا تھا مگر مجھے شرائط معلوم نہ تھیں۔ یکم نومبر 2005ء کو ایک تفتیش کارنے خوشنگی سنائی کے اگلے ہفتے آپ کو رہا کر دیا جائے گا مگر اس سے پہلے آپ کو کسی دوسرا جگہ منتقل کیا جائے گا مگر انہیں۔ دوسرا ہفتہ شروع ہو گیا، پہلے ہی دن مجھے اسی جگہ لے جایا گیا جس کو پہلے میں نے کبھی نہ دیکھا تھا، یہ جگہ زندگی کی تمام سہولتوں سے آرائتھی۔ جبکی دفعہ میں نے اپنے لیے یہاں خود قبوہ پکایا جس کا مجھے بڑے عرصے سے ارمان تھا۔ دوسرا دن چار بجے کے قریب اپنی آیا اور میرے ساتھ پہنچ کر میرے گمراہ اور افغانستان کے حالات کے متعلق معلومات فراہم کیں اور کہا کہ کل رات بارہ بجے آپ کی افغانستان کے لیے پرواز ہو گی۔ اس وقت تک آپ آرام کریں۔ تیسرا دن مجھے پھر اس جگہ لے جایا گیا جہاں پہلے سزا دی جاتی تھی مگر اسید تھی کہ ریڈ کراس کے لوگ آئیں گے۔ معمول تو یہی تھا کہ رہائی کے وقت ریڈ کراس کے لوگ قیدی سے ملتے مگر اچانک چند امریکی ویڈیو کیسروں کے ساتھ اندر آئے، ان کے ساتھ ایک پشتو تر جان بھی تھا، ایک دو سیاہ کاغذات ان کے ہاتھ میں تھے جس پر انگریزی میں کچھ لکھا گیا تھا اور ساتھ میں پشوتو ترجمہ بھی تھا۔ کاغذ میرے حوالے کیا گیا اور کہا گیا کہ اس پر دستخط کریں کاغذ پر درج شقین کچھ اس طرح تھیں:

- 1- قیدی اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے، یونا یکٹا ایٹیشن آف امریکا سے معافی مانگتا ہے، امریکا کی طرف سے جرم کی معافی اور رہائی پر اس کا شکر گزار ہے۔
- 2- قیدی القاعدہ اور طالبان کا ساتھی تھا، آئندہ دونوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھے گا اور ان کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا۔
- 3- قیدی آئندہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں حصہ نہیں لے گا۔
- 4- قیدی آئندہ امریکا اور اس کے اتحادیوں کے مفادات کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا۔

اگر قیدی نے ان شقوں کی خلاف ورزی کی تو اسے پھر گرفتار کیا جائے گا اور ساری عمر قید میں رکھا جائے گا۔

اس حلف نامے کو پہلے پڑھ کر سنایا گیا جسے ویڈیو پیکروں میں بھی محفوظ کیا گیا پھر مجھے دستخط کرنے کو کہا گیا۔ میں نے کاغذ انتہائی غصے سے دور پھینکا اور کہا ”میں مظلوم ہوں، مجرم نہیں ہوں، کبھی بھی اپنا ناکردار جرم تسلیم نہیں کروں گا، کبھی معافی نہیں مانگوں گا، کبھی بھی اپنی رہائی پر امریکا کا شکریہ ادا نہیں کروں گا، میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ مجھے کس قانون کے تحت مجرم ثابت کیا گیا ہے؟ میں طالب تھا، ہوں اور طالب رہوں گا، البتہ القاعدہ کا کبھی ساتھی نہیں رہا۔ کس دوست گردی کے واقعے میں میرا ہاتھ تھا مجھے بتائیے، اگر آپ پچے ہیں۔

آپ رہائیں ہو سکتے:

انہوں نے کہا اگر آپ نے دستخط نہیں کیے تو آپ رہائیں ہو سکتے مگر میں نے صاف انکار کر دیا اور کہا اگر مجھے ساری عمر بھی قید میں رکھا جائے پھر بھی نہیں مانوں گا کہ میں مجرم ہوں۔ کئی مرتبہ وہ باہر نکلے، پھر اندر آئے۔ کئی بار اصرار کیا مگر میں نے دستخط نہیں کیے۔ چوتھی بار اندر آئے تو کہا کہ اگر آپ کو کاغذ کی لکھی شقیں منظور نہیں تو کچھ اور لکھیں اور وہ لکھیں جو آپ چاہتے ہیں۔ مجبوری کے عالم میں قلم اٹھایا اور لکھتا شروع کر دیا:

”میں مجرم نہیں ہوں، کبھی کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا، ایک مظلوم مسلمان ہوں جس کے ساتھ پاکستان اور امریکا نے قلم کیا ہے اور چار سال قید میں رکھا میں یقین دلاتا ہوں کہ امریکا کے خلاف سرگرمیوں میں حصہ نہیں لوں گا۔ والسلام“

رہائی کی خوشی اور پچھی بات

میں نے دستخط کر کے کاغذ ان کے حوالے کر دیا اور گہری سوچوں میں غرق ہو گیا کہ میرا لکھا وہ مانیں گے بھی یا نہیں؟ اور میری تحریر میں وہ کوئی تحریف بھی کر سکتے ہیں۔ بہر حال کچھ دیر بعد اپنی رویہ کراس کے نمائندوں کے ساتھ آئے میرے ساتھ بیٹھے اور رہائی کی خوشخبری

دی ریڈ کراس نے اپنے معاملات نمٹا لیے پھر واپس مجھے پانچویں کمپ لے جایا گیا تاکہ اپنے بھائیوں سے رخصت لے سکوں، سب قیدیوں کو ایک جگہ لاکھا کیا گیا، میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا اور ان کے ساتھ ڈیڑھ گھنٹہ گزارا۔ پچی بات یہ ہے کہ اس وقت مجھے اپنے آپ سے شرم آ رہی تھی اس لیے کہ میرے مسلمان بھائیوں نے ابھی مزید عذاب جھینانا تھا۔ مجھے صرف افغان قیدیوں سے ملاقات کی اجازت دی گئی عربوں اور دیگر مسلمان بھائیوں سے ملنے کی اجازت نہیں دی۔ ایک دن بعد میں کامل کے خواجہ روشن ہوائی اڈے پر اتر۔ مجھے کامل انجینئرنگی لگا، جگہ جگہ حفاظتی سورچے بنائے گئے تھے۔ مجھے پہلے سے مقرر کردہ جگہ منتقل کر دیا گیا۔

اب میں پچھلے دس ماہ سے کامل کے اس مکان میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہائش پذیر ہوں جہاں موجودہ حکومت کی جانب سے کرایے پر رہائش فراہم کی گئی ہے۔ میری حفاظت کا ذمہ موجودہ افغان حکومت نے ایک سال تک کے لیے لیا ہے ایک سال بعد معلوم نہیں کیا ہو گا؟

تمام مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے میری دعا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ بخیر و عافیت تمام مصیبتوں سے اپنی حفاظت میں رکھے اور قیدی بھائیوں کو سلامتی کے ساتھ رہائی نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچائے اور ہر امتحان میں کامیابی سے سرخوب فرمائے۔

(آمین)